



VERBATIM REPORT

SESSION TWO

Sunday, January 04, 2009

CONTENTS

1. Recitation from the Holy Qura'an
2. Calling Attention Notices
3. Resolutions
4. Motion

Youth Parliament of Pakistan met in the Margala Hotel, Islamabad, on 4th January, 2009 at thirty minutes past nine in the morning with Mr. Speaker (Ilahi Bakhsh Soomro) in the Chair.

Recitation of Holy Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۖ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. إِنْ تَجَنَّبُوا كِبَارَ مَا نُهَوْنَ عَنْهُ نُكْفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بَاطِلًا شَيْءٍ عَلِيمًا.

ترجمہ - اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ کھاؤ ایک دوسرے کے مال باہم ناجائز طریقے سے مگر یہ کہ ہو لین دین تمہارے آپس کی رضامندی سے اور نہ قتل کرو اپنے آپ کو بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ جو شخص ایسے کام کرے گا زیادتی اور ظلم سے تو عنقریب ان کو بڑی آگ میں جھونکے گئے۔ اور اللہ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ اگر تم بچتے رہو ایسے بڑے گناہوں سے کہ منع کیا گیا تم کو جن سے تو معاف کریں گے ہم تمہاری چھوٹی برائیاں اور داخل کریں گے ہم تمہیں عزت و احترام کی جگہ۔ اور مت تمنا کرو ایسی بات کی کہ فضیلت دی ہے اللہ نے اس میں تم میں سے بعض کو بعض پر۔ مردوں کے لیے بے حصہ اس میں جو کمایا انہوں نے، عورتوں کے لیے بے حصہ جو کمایا انہوں نے، مانگو اللہ سے اس کا فضل بے شک اللہ ہر چیز کے بارے میں سب کچھ جاننے والا ہے۔

Mr. Essam Rehmani: I have a point of order.

Mr. Speaker: You have the floor.

Mr. Essam Rehmani: I would like to introduce to the House the new shadow Minister for Information from the Green part. For the Information we have Mr. Moeen Akhtar instead of Mr. Abdullah Leghari and the new Foreign shadow Minister is Mr. Abdullaha Leghari. Thank you.

Mr. Speaker: Thank you. Please handover these details to the secretariat. Thank you. Honorable Leader of the House has the floor.

جناب احمد علی بابر: جناب سپیکر! اس سے پہلے کہ ہم آج کے normal order of the day کی طرف جائیں میں ایوان کی توجہ اس ایف بی آئی کی ٹیم کی طرف دلانا چاہتا ہوں جو اجمل قصاب کے origin کی تلاش میں فرید کوٹ آئی ہوئی ہے اور یہ سارے American origin کے لوگ ہیں یہ پاکستان کی soil پر اجمل قصاب کا origin تلاش کر رہے ہیں تو میں جانتا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان اور US کے درمیان کوئی ایسا agreement موجود ہے جس کے تحت پاکستانی forces US میں اور US کی forces پاکستان میں کسی بھی ملزم کے حوالے سے کوئی investigation کر سکتے ہیں۔ جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے کوئی ایسا agreement record پاکستان اور US کے درمیان نہیں ہوا اور اگر آج ایف بی آئی کی ٹیم پاکستان آئی ہے تو کل سی آئی اے، نیٹو، انٹربول پھر امریکہ اور باقی Western countries کی عام پولیس فورسز بھی پاکستان آئیں گی جو پاکستان کی territorial sovereignty کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ میں ہاوس کی طرف سے اس wrong precedent کو سختی سے condemn کرتا ہوں شکریہ۔

Mr. Speaker: Thank you. You have raised a very relevant and important issue. On these two things I must point out to this honorable House.

No.1, the day agenda cannot be altered without notice and what you have said you may bring it as a Motion after you have completed the agenda of the day. Now I have two resolutions on my table that have to be attended to before we break for tea. Now, the first Resolution has been moved by honorable Sadia Waqar and others. So, I will offer the floor to Sadia Waqar to move the Resolution.

Miss Hira Bitool: *Assalam-o-Alaikum* Mr. Speaker. Thank you very much. Sadia Waqar-un-Nisa is not here. So, I Hira Bitool Razvi is going to move it. "This House is of the opinion that social discrimination in the form of women rights' violation should be strongly condemned and be brought to a halt." Now to start with we, all the girls of the Youth Parliament of Pakistan, all the women have gotten this Resolution on the table and we have a lot of important things to discuss today so we have not made any particular areas that we are going to talk about. Each and every female member is going to be talking about a particular point and we have divided it, means not leaving behind anything. I hope we don't do it.

Firstly, I would want to start with the rural violence that the women face in Pakistan. To start with, I would start with the province of Punjab and specially Mianwali where the practice of *wani* is very common. Now, *wani* is a selling girls into marriage in exchange of money or in compensation for crimes and settling of disputes. Now, this is certainly against the laws of this country. *Wani* is totally illegal in the country and it has been outlawed in 2004 but recently I just saw it in a newspaper that it is very much being practiced in the country. First I would want to quote a woman who has been subjected to such a violence. Near the Khushab area 20 to 30 *wani* cases have been reported out of 30 thousand people in the community. Although we don't have any proper statistics regarding the cases of *wani* because it has been so commonly practiced and no Government or law has ever been able to say anything about it since it is ordered in *Panchait* or *Jirgah*. Even the girl's family is not allowed to say anything and if opposition is shown by the girl's family then the consequences are gang rape or death of the family members of the girl. As I told you that although it has been outlawed so we would not expect any thing from the Government but the practice of the local people in that area, they should just stand up against it and say something about it because the people living in those areas are very much in favour of the *jirgahs* and the *panchait* system and they want it to be changed. But who would stand against such a custom and who would talk about it if they all are in favour of the *jirgah* and *panchait* system. In NWFP this concept of *wani* is known as *sawarah* and it is again a virtual death penalty for young woman who becomes a victim of the traditions of that area.

Secondly, I would want to talk about کاروکاری which is very usual custom of the southern province of Sindh. In کاروکاری actually, it means black male or black female. It is actually a metaphoric term for adulterer and an adulteress. This is not actually only related to the adultery because what happens is that even an illicit affair or illegal marriage that the family regards as illegal.

یہ لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے illegal marriage کی ہے اسی لیے ان کو consequences of honour killing face پڑتے ہیں۔

Now I have a few official statistics regarding کاروکاری that 4000 people died in the last 6 years as a result of کاروکاری and this has not only been practiced in Sindh. This is really sad that in 2774 murdered women have

been reported and out of which 1578 were killed in the Punjab, 751 in Sindh, 260 in NWFP and 185 in Balochistan and out of the 4000 victims 3451 cases were brought to courts and out of them 1834 were from Punjab, 980 in Sindh, 361 in NWFP and 276 in Balochistan and it is really sad to see that کاروکاری is being practiced in each and every part of the country and although we know that this is all against the customs of our religion and I don't know why we call it the Islamic State when we اتنی بری طرح ہم عورتوں کے حقوق کو پامال کرتے I don't know why. This is not all with reference to the religion. کہ

An another thing which is being practiced in Sindh is the marriage with the Quran. The other member of mine, he is from Sindh himself and he was really against it when I was getting this on the table because he said that this is not being practiced. But let me tell you that in the aristocratic families of Sindh, I have a case that is specially the sister of the Chief Minister of Sindh has been subjected to such a violence and this is actually called حق بخشوائی this is the actual name for the marriage with the Quran. What happens in حق بخشوائی is that in order to keep the property, the riches of the families to the family members.

وہ جو عورتوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا اس کی بجائے یا تو ان کی قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے یا اگر ایک عورت چالیس سال کی ہے تو اس کی بارہ سال کے لڑکے سے شادی کی جاتی ہے یا اگر دس سال کی لڑکی ہے تو اس کی ساٹھ سال کے آدمی سے شادی کی جاتی ہے۔

All these practices are just carried out in order to keep the lands and properties to the family members. As well as, forced marriages are faced by the rural girls and now coming back to urban I would want to get in the very delicate issue of issue of prostitution and I would want Mr. Abdullah Zaidi to talk about it since he had a lot of insight.....

An another member from the Green Party would want to talk about the right of abortion. I am really elated by the fact that the gentleman who wants to talk about these issues rather than the woman. I am really glad to see that even men are really upset and want to stand up against the violence that the women are facing in the country. Apart from these things, my other female members are going to be getting in various topics. So, this certainly does not end here but another female member is going to be talking about the consequences and the cure of these problems. So, thank you very much from my side.

جناب راحیل شیر خان: جناب والا! ایک چھوٹی سی clarification کرنا چاہتا ہوں - جناب ابھی محترمہ نے میانوالی کا نام لیا جناب I just wanted to clarify کہ وہاں پر ابھی تک صرف دو cases آئے تھے اور ان کو بھی میانوالی کی community نے strongly condemn کیا تھا اور اس کے بعد ابھی تک کوئی بھی کیس نہیں آیا۔ آپ دو cases کی بنیاد پر پورے علاقے کو exploit نہ کریں۔ شکریہ۔

Mr. Speaker: Honorable Gul Bano has the floor.

Miss Gul Bano: Thank you Mr. Speaker.

راحیل نیازی نے کہا کہ صرف دو cases - یہ دو cases صرف ان کو اس لیے لگے ہیں کہ شاید یہ عورتوں کو minority میں لے کر آتے ہیں۔ معزز سپیکر! قائداعظم محمد علی جناح نے جب اس ملک کا قیام کیا تھا تو ان کا مقصد تھا ایک ایسی اسلامی ریاست کا قیام تھا جہاں رہنے والوں کو مکمل اور برابری کی سطح پر حقوق ملیں۔ بدقسمتی سے پاکستان تو قائداعظم وجود میں لے آئے مگر ایک ایسا معاشرہ ہم آج تک قائم نہیں کر سکے جہاں پر عورتوں اور مردوں کو برابر کے حقوق ملیں۔ جناب سپیکر! میں کوئی بات بھی ہوا میں چلتی ہوئی نہیں کروں گی۔ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل ۲۵ کو میں یہاں پر quote کرنا چاہوں گی کہ:

“guarantees equality of rights to all citizens irrespective of sex, race and class and empower the Government to take affirmative action to protect and promote women’s right.”

جناب سپیکر! میں یہاں پر international law بھی quote کرنا چاہوں گی آرٹیکل نمبر ۳ everyone has right to life, liberty and security of the person. جناب سپیکر! دنیا کا کوئی بھی قانون even اسلام کو بھی اگر ہم دیکھیں کہ مجرم کے کسی بھی گناہ کا جرمانہ بے گنا ادا نہ کرے مگر بدقسمتی سے آج بھی ہمارے remote areas میں، دیہی اور قبائیلی علاقوں کی خواتین اپنے بے گناہ ہونے کی سزا کارروکاری، ونی، حق بخشوائی اور اس جیسی بے شمار جاہلانہ رسومات کی وجہ سے ادا کر رہی ہیں۔ جناب سپیکر! آج بھی ہمارے remote areas میں بھائی یا باپ کی غلطی، جائیداد کا تنازعہ اور قرض کی ادائیگی، even کسی جانور کی چوری کا جرمانہ بھی عورت کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے۔ She is not more than a commodity in our society. Respected Speaker, previous Government Women Protection Law پر بہت کام ہوا لیکن ابھی بھی ہم satisfy نہیں ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ national اور صوبائی level پر conferences call کی جائیں۔ خاص طور پر دیہی علاقوں سے لوگوں کو بلایا جائے کیونکہ یہ مسئلہ زیادہ تر دیہی اور remote علاقوں کے ہی ہیں تاکہ مل کر ایک strong Women Protection Law پاس کیا جا سکے۔ جناب سپیکر! عورتوں کے حقوق کی بات تو ہم کرتے ہیں لیکن ان عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں جن کو خود کو معلوم نہیں کہ حقوق کیا ہوتے ہیں۔ آج جب ہم agricultural development and industrial development کی بات کرتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ development پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جناب سپیکر! ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارا قانون اتنا مضبوط ہونا چاہیے اور اس کے ہاتھ اتنے لمبے ہونے چاہیں کہ وہ جرگے اور پنچائیت تک پہنچ سکیں۔ ان feuds تک پہنچ سکیں جو اپنے مقصد کے حصول کے لیے عورتوں کو قربانی کی بھینت چڑھاتے ہیں۔ جناب سپیکر! ہم یہ چاہتے ہیں کہ جرگے کا نظام مکمل طور پر ختم ہونا چاہیے۔ پاکستان میں دہرا قانون نہیں ہونا چاہیے۔ یا تو جرگے کے قانون کو implement چاہیے یا پھر ہمارے national law کو implement ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میری ایک suggestion یہ بھی ہوگی کہ print media and electronic media پر اس وقت بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر پاکستان کو واقعی development کی طرف گامزن کرنا ہے تو عورتوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ ان کو ان کے due rights فراہم کرنے ہونگے۔ NGOs کا role بھی effective کرنا ہوگا لیکن NGOs کا respected speaker role کیسے effective ہو سکتا ہے وہ علاقے جو feuds کے under control میں ہوں جہاں پر ان کے حکم کے بغیر کسی اور کی مرضی نہیں چل سکتی ہو وہاں پر NGOs بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ عورتوں کو empower کرنے کے لیے vocational and technical institutions start کیے جائیں تاکہ جب تک وہ economically strong نہیں ہوں گی وہ اپنی position بھی strong نہیں کر سکتی۔ شکریہ۔

جناب احمد نور: جناب سپیکر! ایک پوائنٹ آف آرڈر ہے۔

جناب والا! جرگہ کو ختم کرنے کی بات کی گئی ہے اس سے ہم really hurt ہوئے ہیں کیونکہ ہماری سوسائٹی میں کئی سالوں سے جرگہ سسٹم آ رہا ہے۔ وہاں پر convention, tradition, cultural ہے اسی پر وہ فیصلے کرتے ہیں۔ اس کو ختم کرنے کی بات کی گئی ہے جس سے ہم really hurt ہوئے ہیں۔ انہیں اپنے الفاظ کو واپس لینا چاہیے۔ ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ وانا میں پاکستانی حکومت امن قائم نہیں کر سکتی تھی لیکن جرگے کے ایک فیصلے نے امن قائم کیا۔ اس طرح اس institution کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے انہیں اپنے الفاظ کو واپس لینا چاہیے۔

Mr. Speaker: Thank you, actually I do not think any of you have read the Resolution. If you read the Resolution the points that you are raising are not in the Resolution. Resolution clearly states that there should be no discrimination between the two sexes. If you like I will read it. “The House is of the opinion that social discrimination in the form of women’s rights’ violation should be strongly condemned and be brought to halt.” I do not think anybody can ever object to these contents but I must tell you bibi what we

require is not NGOs or law. We require the middle class society to raise their voices. We have not yet built up the middle class society. Middle class society means it comes with education. It is the teachers, lawyers, doctors and whatever professionals that is the middle class.

Miss Gul Bano: Yes, sir. It is a gradual process.

ایک دم تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔

Mr. Speaker: Anyway. Now the second speaker is Sor Fabha Alvi.

Miss Sor Fabha Alvi: Thank you Mr. Speaker. It is Sor Fabha Alvi. Whether women are better than men? I can not say but I can say they are certainly no worse. But unfortunately women in Pakistan specially in the rural areas are amongst the most disadvantage people in the world in terms of their health status, in access to accurate in appropriate health information and adequate and affordable health services.

جناب سپیکر! ہمارے ہاں عورت کو بعض اوقات اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اسے اس معاشرے میں رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اس کو صحت جیسی بنیادی ضرورت سے بھی محروم رکھا جاتا ہے۔ جبکہ ہم سب یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک صحت مند ماں ہی ایک صحت مند معاشرے کو جنم دیتی ہے۔ جناب سپیکر! to clarify my point یہاں پر میں آپ کے سامنے کچھ statistics بیان کرنا چاہوں گی۔

Unfortunately, in Pakistan the MMR that is Maternal Mortality Rate is 4.525 per thousand births or 500 per one lakh births and it is the highest in Balochistan being 673 per one lakh births which is a very high rate as compared to anywhere else in the world. If you look at the IMR that is Infant Mortality Rate that is 45 per thousand births which is also extremely high. mal-nutrition. According to a survey, 34% of the pregnant women in Pakistan face further they face iron deficiency کو 45% میں سے 34% اور ان mal-nutrition. anemia still births, birth defects, mental retardation, hemorrhages, hypertension and it is all because of any cause related to mal-nutrition during the pregnancy or multiparity جو کہ ہمارے معاشرے کا بہت افسوسناک پہلو ہے۔

According to WHO, 35% to 75% of pregnant women in Pakistan are anemic, be it iron deficiency or folic deficiency which further leads to a disease which is born related in very common and it is called osteoporosis

اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک عورت صرف دو بچوں کو جنم دینے کے بعد ہی بستر کے ساتھ لگ جاتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے گھر اور اپنی ذمہ داری بہت خوش اسلوبی سے نبھاتی ہے۔

ہمارے ملک میں سب سے بڑا draw back یہ ہے کہ ہم females کو health education نہیں دیتے۔ and there is no management, the management is nil. ہمارے ہاں غربت اتنی infiltrate کرچکی ہے کہ عورت کو ہسپتال کا access ہی نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو وہ اس stage پر ہوتا ہے جہاں پر it is of no use but the good thing is that the Government has issued a national health policy which aims to reduce the MMR to 250 per one like life births by 2010. اس کو بات کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت معاشرے کی تشکیل میں مرد کے برابر اپنا کردار ادا کرتی ہے اس کو اپنے تمام جائز حقوق بھی ملنے چاہئیں۔ شکریہ۔

Mr. Speaker: Yes, Sama Paras Abbasi.

Miss Sama Paras Abbasi: Thank you Mr. Speaker.

علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نپولین بونا پائٹ نے ایک دفعہ کہا تھا جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ تم مجھے اچھی مائیں دو ، میں تمہیں ایک اچھا معاشرہ دوں گا۔ ایک تعلیم یافتہ ماں نہ صرف اپنے بچوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کر سکتی ہے بلکہ ان کی تعلیم و تربیت اور صحت کا بھی بہتر طریقے سے خیال رکھ سکتی ہے۔ جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ ماں کی گود ہی بچے کی پہلی درس گاہ ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے بھی بچیوں کی تعلیم اور ان کے حقوق پر خصوصی توجہ دی مگر ہمارے دیہی علاقوں میں آج تک عورت کو تعلیم جیسے بنیادی حق سے محروم رکھا گیا ہے۔ شرمناک بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے بیٹوں کو تو سکول بھیج دیتے ہیں مگر بیٹیوں کو نہیں۔ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ پڑھ لکھ کر کیا کریں گی۔ ہم نے ان سے نوکری تھوڑی کروانی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس روایت کو ترک کر کے اپنی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں۔

Mr. Speaker, when we talk about the limits, constraints and the obstacles to women education in Pakistan, we tend to think in terms of ideas and concepts that are culture, traditions and discriminations against girls. However, sometimes, small things can make a difference. One of these is where a school is located. One of the major factors in parent's reservations about girl's schooling. After the issue of not being able to pay for the educational expenses is that their daughter will have to go to a far away place to get the education. This poses challenges in poor rural areas. The issue is about the safety and security of their daughters by parents. This is what troubles them the most. Female literacy rate in Balochistan can be partly explained by the fact that in 1983 only 33% of provinces, villages had girl's primary schools within a distance of one kilometer and it is really clear that to boost female literacy education in Pakistan girls' schools must be constructed and administrated in areas which are near to residential areas and where possible innovation such as satellite schools, clusters schools and multi-grade classes must also be used to increase the availability of schooling facilities.

Mr. Speaker, I would like to give some statistics that the literacy rate of females in Pakistan is 36% and the female primary schools are 36.1%. The percentage of middle schools is 44.2% that of secondary schools is 36.4%. We have 40.3% of art and science colleges for women and just 4.6% professional colleges. The universities are 2%. Then I would like to come to the point that we all know that the higher education has a very important and vital role in the development of a nation.

لیکن ہمارے ہاں عورت جو پاکستان کی آبادی کا 53.4% حصہ ہیں ان کی تعلیم کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ مجھے یہ بتانیے کہ جب آپ کی آدھی سے زیادہ آبادی ہی ان پڑھ ہوگی تو آپ کیسے ترقی کر سکتے ہیں۔ پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے ہمیں عورتوں کی اعلیٰ تعلیم پر خصوصی توجہ دینی ہوگی۔

جناب سپیکر! I would like to tell! کیونکہ۔۔۔۔

Mr. Speaker: Respect the time limit. If you don't, I don't think you will be able to handle this agenda.

Miss Sama Paras Abbasi: Yes. I will just close with this that the research studies have revealed that higher education creates a sense in women about their rights, responsibilities, empowerment and leadership. So I just want to say that women literacy is really a very important issue which needs to be looked upon. Thank you so much.

Mr. Speaker: Now I offer the floor to honorable Umm-e-Ammara Hikmat. Please respect the time limit and also I would suggest that whatever

you say should be relevant to the Resolution. Most of the speeches are very good but not very relevant to the Resolution.

Miss Umm-e-Ammara Hikmat: Thank you Mr. Speaker.

پاکستانی عورت ایک طرف معیشت اور ملک پر حکومت کرتی ہے اور دوسری طرف اپنے لبرل صدر سے اپنے ناکردہ گناہ کے طعنے بھی سنتی ہے۔ صدر صاحب ظالم اور مظلوم میں فرق نہ کرنے والے حدود آرڈیننس تو بدل دیتے ہیں۔ Enlightened moderation کے علمبردار ہیں لیکن اپنی سوچ نہ بدل سکے۔

جناب سپیکر! چاہے گھر کی چار دیواری ہو یا عدالت کا کٹہرہ عورت کے حقوق کی پامالی ہر قدم پر ہوتی ہے۔ تعلیم کو ہی ہم کیوں ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جب ایک بی ایم ڈبلیو میں بیٹھنے والا بیوروکریٹ بھی اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور ایک فٹ پاتہ پر سونے والا مزدور بھی۔ میں ابھی آپ کو تین جنوری کی مثال دیتی ہوں جنگ اخبار میں آیا تھا کہ اس دارالحکومت جس کا نام اسلام آباد ہے دو دن پہلے حوا کی بیٹی جو اپنے شوہر کا مقدمہ درج کرانے تھانے گئی تو جناب سپیکر قانون کے محافظوں نے اس کی عزت لوٹ لی۔ اسلام آباد راولپنڈی کے علاقے شکرپال میں اس خاتون کے ساتھ قانون کے رکھوالوں نے جو زیادتی کی، اس وقت قانون کہاں تھا۔ جناب سپیکر! یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا ہے یہ gender discrimination کی تازہ ترین مثال ہے۔ اس وقت میں آپ کو violation against women کی ایک مثال دوں گی۔ Violence against women is any act that may be in the form of physiological, physical, sexual harm or suffering or it can include threats of such acts. Violence against women may take form of domestic battering low income Trafficking in women ملازمت کا جھانسنہ دے کر forced prostitution کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ marital rape, dowry related issue, male child preference سب ایسی چیزیں ہیں جن میں ہم صرف اور صرف مرد کو الزام نہیں دے سکتے کیونکہ جہیز ہمیشہ ساس ہی طلب کرتی ہے، سسر نہیں۔ اس کے علاوہ یہ ساس ہی ہوتی ہے جس کو پوتے کی خواہش ہوتی ہے۔ Mr. Speaker, domestic violence exists in a cultural of silence and denial. یہ domestic violence اس وقت عورتیں رپورٹ کرنے سے کتراتے ہیں کیونکہ نا تو ان کو اپنے قانونی حقوق کا پتا ہوتا ہے اور اگر پتا ہوتا بھی ہے تو وہ victimize ہونے سے ڈرتی ہیں کہ وہ دوبارہ actual assault کا نشانہ نہ بن جائیں یا insensitive or accusatory questions ان سے نہ کیا جائیں کورٹ میں یا media میں اس چیز کا issue نہ بنایا جائے۔ اسی وجہ سے authorities کو یہ incidents بہت کم رپورٹ کئے جاتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے mindsets change نہیں کریں گے تب تک ہم equality, development and peace achieve نہیں کر سکتے۔ شکریہ۔

Mr. Samir Anwar Butt: Point of informantion.

Mr. Speaker: Yes, you have the floor.

جناب سمیر انور بٹ: میں صرف یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ یہاں پر سب لوگ condemn تو کرتے ہیں لیکن ایک چیز پر آپ لوگوں کی attention لانا چاہوں گا کہ جاپان اور امریکہ میں پاکستان سے زیادہ rape cases ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ women rights کی violation ہوتی ہے تو اس کو please آپ consider کریں۔ صرف پاکستان کی bashing نہ کریں۔ اس کو ایک objective طریقے سے دیکھیں۔

Mr. Speaker: Now, I offer the floor to honorable Aurangzeb Marri.

جناب اورنگزیب مری: بہت بہت شکریہ جناب سپیکر۔ میں معزز رکن اسمبلی کی اس بات سے بالکل اتفاق رائے رکھتا ہوں کہ وہاں ہوتے ہوں گے مگر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم امریکہ یا جاپان میں نہیں بیٹھے ہوئے، ہمیں اپنے ملک کے مسئلے دیکھنے ہیں، ہمیں دوسروں کے مسئلے نہیں دیکھنے۔

جناب سپیکر! میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تقریباً ۸۰ سے ۹۰ فیصد عورتیں پاکستان میں Whether it be physical or whether it be verbal, domestic violence they are victim to some sort of abuse there on which keeps on going and the sad part is that it can not only rural but in urban areas. جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک مشہور former cricketer نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ physical abuse کیا تھا اور ان کو اسی وجہ سے punishment بھی ملی تھی۔

جناب سپیکر! میں آپ کو اعداد و شمار بتانا چاہتا ہوں کہ سال میں چار ہزار عورتیں and most of them are done by their husbands or their in-laws. جلائی جاتی ہیں۔ domestic violence ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا issue ہے جس کو ہمیں target کرنا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔

جناب والا! Pakistan Penal Code میں laws ہیں، 354 and 509 sections جو not going into the details but basic verbal abuse or basic women rights court hearings کو deal کرتے ہیں مگر ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بہت دیر تک چلتی ہیں اور ان عورتوں کو انصاف نہیں ملتا۔ میرے ساتھی رکن اسمبلی نے بتایا تو سہی کہ domestic violence ایک بہت بڑا issue ہے عورتیں اپنے گھر سے باہر نہیں آتی لیکن انہوں نے ہمیں حل نہیں بتایا۔ اس کے کچھ solutions میں آپ کو بتانا چاہوں گا کیونکہ بہت بڑا matter ہے اس کے کچھ حل ہیں سب سے پہلے تو ایک support system create کرنا چاہیے۔ عورتوں کو education دینی چاہیے اور ان کو knowledge دینی چاہیے کہ اس چیز کی کتنی اہمیت ہے کہ ان کو آگے آنا ہے، ان کو بتانا ہے کیونکہ جب تک وہ آگے نہیں آئیں گی تب تک ان کے خلاف یہ چیزیں ہوتی رہیں گی۔ ان کے خلاف ہو رہی ہیں انہی کو آگے آنا ہے۔ اگر ہمارا مسئلہ ہے تو ہمیں ہی آگے آنا ہے۔ جب تک وہ آگے نہیں آئیں گی اس طرح نہیں ہوگا۔ کافی عورتیں مایوس ہو جاتی ہیں کہ ان کے cases develop نہیں ہوتے۔ ان کے cases prolong ہو جاتے ہیں ان کو انصاف نہیں ملتا۔ اس کے لیے میں ایک suggestion دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمیں Pakistan Penal Code کے تحت سزا دلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مگر اگر وہ case prolong ہو رہا ہے تو اس طرح کا کوئی complaint cell کی development ہونی چاہیے جن کو وقت ملنا چاہیے کہ اگر چہ مہینے تک case solve نہیں ہوا تو وہ اس کے اندر intervene کریں اور آپ کی local authorities کو عورتوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ چاہے وہ گھر کی خاتون ہو، چاہے وہ پڑوسی ہوں، چاہے وہ محلے کے لوگ ہوں سب کو easy access ہونا چاہیے۔ ان کو educate کرنا چاہیے کہ جب بھی آپ دیکھیں کسی خاتون پر تشدد ہو رہا ہے، کسی پر بھی تشدد ہو رہا ہے آپ ادھر آئیں اور فوری طور پر اس کو deal کیا جائے۔ Offenders کو court میں لے کر جائیں اور proper legislation کے ذریعے اس کو پاس کریں۔

ایک اور education کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے ایک suggestion میں دینا چاہوں گا کہ ہمیں دیہی علاقوں میں ایک اچھا infrastructure develop کرنا چاہیے جس کے تحت عورتوں کو تعلیم دی جائے وہاں پر proper buildings فراہم کی جانی چاہیے کیونکہ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہم گاؤں میں جاتے ہیں وہاں پر proper infrastructure نہیں ہوتا، proper building نہیں ہوتی، proper رہنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ اگر ایک proper infrastructure پر گاؤں میں، ہر تحصیل، ہر ضلعے میں، ہر تعلقے میں اس طرح کے issues کو deal کرنے کے لیے بنائے جائیں تو I am sure کوئی ایسی عورت نہیں ہوگی جو دوسری عورت کی مدد کرنے کے لیے آئے گی۔

جناب سپیکر! ایک اور issue harassment at the work place ہے۔ میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا کہ there was a case that I heard about myself and I was in the contact with the person for four months ایک معزز teacher تھے۔ اتنی لمبی ان کی داڑھی تھی اور ان کو پچھلی نوکری سے harassment کے کیس میں نکال دیا گیا تھا اور یہ بات اخبار میں آئی تھی اور کافی magazines میں بھی آئی تھی۔ Harassment ایک بہت بڑا issue ہے ہمیں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا cultural ہمارا religion ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ ہمارے آئین کے تحت، آرٹیکل 34 میں لکھا ہوا ہے کہ steps shall be taken to ensure full participation of women in all spheres of national life. ملک کی ادھی آبادی کو cover کرتی ہیں۔ جناب سپیکر! اگر ہم عورتوں کو ایک safe environment میں کام نہیں کرنے دیں گے۔ اگر ہم عورتوں کو verbal abuse سے نجات

نہیں دلائیں گے تو یہ issue آتا رہے گا اور جب تک ہماری آبدی صحیح طرح کام نہیں کرے گی ہمارا ملک صحیح طرح سے ترقی نہیں کر سکے گا۔ شکر یہ۔

Mr. Waqar Nayyar: Sir, on point of information.

جناب والا! ہماری پارٹی کی طرف سے وزیر صاحب نے بات کی تھی کہ جاپان اور امریکہ میں report cases زیادہ ہیں۔ میں یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں reporting ratio of actual rape cases is one out of 3 to 4 thousand according to UN estimates. جبکہ امریکہ میں is not کہ یہاں پر کم ہو رہا ہے issue یہ ہے کہ اس پر یہاں پر بات نہیں ہوتی۔ شکر یہ۔

Mr. Speaker: Now I offer the floor to Afsana Afsar.

Miss Afsana Afsar: Thank you Mr. Speaker. As the fellow member said, “we are not pointing out the feminist’s point of view.

ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ عورت کو اس کے حقوق دینے جائیں۔ پاکستان میں پچاس فیصد سے زیادہ آبادی خواتین پر مشتمل ہے لیکن انہیں ان کی representation کے مواقع فراہم نہیں کئے جا رہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں اپنے ایک بھائی سے بات کر رہی تھی تو انہوں نے مجھے CSP officers کی مثال دی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں representation کم ہے تو انہوں نے کہا کہ ratio کم ہے، پیچھے سے کم آرہی ہیں۔ خواتین سامنے ہی کم آرہی ہیں۔ وہ کیا وجہ ہے کہ خواتین سامنے کم آرہی ہیں۔ انہیں representation کے مواقع نہیں دیے جا رہے۔ ابھی جب سٹیٹ بینک کی گورنر شمشاد اختر صاحبہ کو appoint کیا گیا تو یہ بہت بڑا قدم تھا لیکن ایک سوال ہے کہ کیا 60, 61 سال میں صرف ایک عورت اس قابل تھی کہ اسے سٹیٹ بینک کے گورنر کے منصب پر فائز کیا جاسکے۔ کیا وجوہات تھیں کہ عورتوں کو اس level تک نہیں لایا جا رہا تھا۔ Obviously domestic violence کے حوالے سے میں کسی ایک organization کو یہاں پر blame نہیں کر رہی یہ social discrimination ہے، ہر individual کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر سے اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو سامنے لائے، اسے encourage کرے، discourage نہ کرے۔ ایک بہت بڑا point ہوتا ہے کہ وہاں پر کام کرنے کا ماحول نہیں ہے۔ وہاں پر پتا نہیں کیسا ماحول ہوگا، مرد زیادہ ہوں گے، خواتین کیسے کام کریں گی، میری بیٹی کیسے کام کرے گی، وہ ماحول بھی انہی مردوں کو بنانا ہے کیونکہ مرد کو تو عورت کے حقوق کا محافظ بنایا گیا ہے۔ عورت کا تحفظ اگر مرد نہیں کرے گا تو کون کرے گا۔ جب بس سٹاپ پر کوئی لڑکی کھڑی ہوتی ہے تو وہ صرف یہ criticize کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ لڑکی اکیلے کھڑی ہے۔ وہ کیا وجوہات ہیں کہ لڑکی اکیلی کھڑی ہے۔ میں صرف اس ایک point پر end کرنا چاہوں گی کہ

it is the responsibility of society to arrange work for women so that she could work in a Muslim atmosphere. Thank you.

Mr. Speaker: Now I offer the floor to honorable Mohsin Saeed.

جناب محسن سعید: شکر یہ سپیکر صاحب۔ میرے جذبات کا اظہار میرے ممبران نے بڑے بہتر انداز میں کر دیا ہے۔ میں ان چیزوں کو دہراؤں گا نہیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت سے کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کی کہ اے لوگو! عورتوں کے معاملے میں سب اللہ سے ڈرو۔ اے لوگو! عورتوں کے معاملے میں سب اللہ سے ڈرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عورتوں کو جو عزم اور شان عطا فرمائی ہے، وہ عطا فرمائی جس کی وہ مستحق تھیں۔ اب میں پاکستان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو خواتین ہیں وہ کم از کم مغربی ممالک سے زیادہ بہتر انداز میں زندگی گزار رہی ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ ان کو بھی ٹھیک ٹھاک حقوق حاصل ہیں لیکن آج بھی ہمارے ملک میں وہ باتیں ہو رہی ہیں جن کی مہذب معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جیسے کافی تفصیل سے بتایا گیا ہے گھریلو تشدد، کاروکاری، ونی، قرآن سے شادی اور honor killing اس معاشرے میں سب جابلانہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو قانون سازی کرتا ہے ان کا کردار بھی اس حوالے سے زیادہ روشن نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹے سے واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جب بلوچستان کے اندر پانچ چہ خواتین کو زندہ دفن کیا گیا تھا تو جب سینیٹ میں بحث چل رہی تھی تو ایک سینیٹر نے کہا کہ یہ

بلوچوں کا اپنا معاملہ ہے اور باقی رہی سہی کسر قائم مقام چیئرمین سینیٹ نے یہ کہہ کر پوری کردی کہ اسلام آباد کے صحافیوں کو بلوچ روایات کا علم نہیں ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ کیا ہم suggestions دے سکتے ہیں۔

Mr. Speaker: Please respect the time limit. Because then you will be only stuck with the first Resolution. You have three minutes and each one should respect three minutes.

جناب محسن سعید: یعنی جو بھی قوانین بنائے ہیں ان کا نفاذ کیا جائے۔ لوگوں کے اندر سماجی شعور کے ذریعے ان کو آگاہ کیا جائے۔ میڈیا کو استعمال کیا جائے کیونکہ وہ رائے عامہ کو ہموار کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسلام ایک واضح نظام ہے، ضابطہ حیات ہے اس کے زریں اصولوں پر عمل کیا جائے اور عورتوں کو اقتصادی طور پر مضبوط بنایا جائے۔ ان کے تعلیمی حالات کو بہتر بنایا جائے۔ گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کی لڑکیاں co-education میں نہ جائیں تو دیہات میں لڑکیوں کے لیے علیحدہ سکول بنائے جائیں اور جو بھی زیادتی کا شکار ہونے والی خواتین ہیں ان کی قانونی چارہ جوئی کے لیے اقدامات کئے جائیں۔ شکریہ۔

جناب ضمیر احمد ملک: پوائنٹ آف آرڈر۔

Mr. Speaker: Yes, point of order Malik Sahib.

جناب ضمیر احمد ملک: جناب یہ کچھ دیر پہلے کسی حوا کی بیٹی نے کہا کہ صدر صاحب اور حدود آرڈیننس، تو براہ مہربانی سابق صدر کے الفاظ استعمال کیے جائیں۔

Mr. Speaker: The order of the day states one hour for each Resolution. Now, this resolution has already taken one hour. So, I will curtail it here and I put it to the House so that the next Resolution can be taken and for that I will give three minutes to each speaker because there are eight speakers from each side and if you calculate that takes over one hour because we have to adjourn at 11.15. So I will now put the Resolution to the House.

Miss Sadia Waqar-un-Nisa: I would like to close on behalf of my women's representation.

An honourable Member: Sir, it started on 9.30.

Mr. Speaker: Yes, you started on 9.30 and you had to finish at 11.15. So, if you want the second Resolution to have three minutes each I will take care of all the eight members. If you calculate eight members on either side that takes one hour that will at 11.15.

Mr. Muhammed Abdullah Zaidi: Can I close the debate on the behalf of everybody .

مس سعدیہ وقار النساء : جناب سپیکر! میں بھی خواتین کے behalf کچھ کہنا چاہوں گی۔ Kindly allow me three minutes. Thank you very much.

Mr. Speaker: Bibi, the point is one of the honorable members pointed out whether a woman is better than a man. Of course, she is, because we are a part of a woman and it is a woman that creates us apart from God.

Miss Sadia Waqar-un-Nisa: Thank you very much. I highly appreciate this practical demonstration of the Resolution in the House. Thank you.

جناب سپیکر! دونوں طرف سے دلچسپ discussion تھی، خواتین کے behalf پر ہاؤس میں بہت دلچسپ information ملی اور مرد حضرات نے جو ہمارے اراکین ہوتے پارلیمنٹ ہیں انہوں نے بھی بڑی دلچسپ information دیں اور counter questions کئے۔ حالی کا ایک شعر ہے۔

اے ماوں بہنوں بیٹیوں دنیا کی عزت تم سے ہے

تم ہو قوموں کی آبرو، وطن کی زینت تم سے ہے

میرے خیال سے ہمارے معاشرے کے مرد حضرات نے اس کو صرف اپنی ماوں بیٹیوں اور بہنوں تک محدود کر لیا ہے۔ جناب سپیکر! I am not here to create any controversy but please allow me to say this کہ جہاں ایک خاتون روتی، سسکتی، تڑپتی، بلکتی گھر کے گوشے میں دبی ہوئی اور اپنے مردہ احساسات کے ساتھ ایک مرد کے بچوں کی پرورش کرتی ہوئی مرد کو اچھی لگتی ہے لیکن جہاں وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑتی ہے، اپنے وسائل کی جنگ لڑتی ہے اور اپنے اور دوسری خواتین کے حقوق کا دفاع کرتی ہوئی گھر سے باہر نکلتی ہے، چاہے وہ عنان حکومت ہو یا کوئی عام employment یا کسی قسم کا personal front اس کو شدید ہراساں کیا جاتا ہے، psychologically, sexually and whatever، اس کی شدید مذمت کی جاتی ہے۔ ایک خاتون اسلام کی رو سے عزت کی حقدار ہے۔ حدیث پاک ہے، یہ تو آگینے ہیں ان سے نرم سلوک کرو۔ جناب سپیکر! ہمارے معاشرے میں کس قسم کا نرم سلوک خواتین سے روا رکھا جاتا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ کہنے چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں اب بھی ایک ہندو معاشرے کے اثرات بالکل واضح ہیں۔ مرد حضرات خواتین کو صحت عامہ، تعلیم اور بنیادی حقوق سے محروم رکھے ہوئے ہیں۔ Employment front، private or public sector میں خواتین کی نمائندگی ہو یا ان کی national اور international level پر نمائندگی ہو، واقعتاً اقلیتوں کے برابر ہے۔ Unfortunately ہم یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ خواتین حقیقتاً ایک اقلیت ہیں۔ زندہ قوموں کی یہ پہچان ہے کہ وہ خواتین کی صلاحیتوں کے معترف ہوتے ہیں۔ جب وہ برابری کے حقوق مانگنے نکلتے ہیں تو ان کو western diplomacy کا شکار کر کے کھڑے ہونے پر مجبور کیا جاتا ہے۔

Mr. Speaker: Your time is over babi.

Miss Sadia Waqar-un-Nisa: Just one minute, sir.

جہاں ہم special حقوق کی بات کرتے ہیں جو اسلام ہمیں allow کرتا ہے تو پھر ان کو discrimination کا شکار کیا جاتا ہے۔ یہ خواتین کی intellectual insult ہے۔ اب یہ ہماری اپنی choice ہے کہ ہم ایک زندہ قوم کے طور پر یاد رکھے جانا چاہتے ہیں یا خواتین کو عضو معطل کے طور پر لے کر ہمیشہ کے لیے بھلا دیا جانا چاہتے ہیں۔ ہم آپ سے اور معزز اراکین اسمبلی سے جو اس وقت یہاں پر تشریف فرما ہیں برابری کے حقوق کی بات نہیں کرتے، خصوصی حقوق کی بات کرتے ہیں جو اسلام ہمیں دیتا ہے۔ بہت شکریہ۔

Mr. Speaker: Since five honorable members on the right have had the floor, I will offer one speaker on the Green side. Please nominate your speaker. Leader of the Opposition should nominate the speaker.

ایک معزز رکن: سر ایک پوائنٹ آف آرڈر ہے۔

Mr. Speaker: First let me have my answer. I will ask the honorable Leader of the Opposition to nominate the speaker.

Mr. Essam Rehmani: Sir, Mr. Abdullah Zaidi.

Mr. Speaker: Mr. Abdullah Zaidi has the floor.

جناب محمد عبدالله زیدی: بہت شکریہ جناب سپیکر! پہلے تو میں بے حد disappointed ہوں۔ انتہائی disappointed اس بات سے ہوں کہ جو resolution کے pertinent issues that can put your mood وہ movers ہیں انہوں نے وہ off really they have not touched it. They have not talked on abortion. They have not talked on the violence that goes around the red light area. They have not talked about western contemporary feminism. They have not talked thoroughly about marital rape. Living in glass houses would not get your rights.....

A Member: Point of personal clarification, sir.

Mr. Speaker: No cross talking, please.

Mr. Muhammed Abdullah Zaidi: Living in glass houses will not get you your rights or men will not fight for your rights. آپ کو خود اپنے حقوق کے لیے لڑنا پڑے گا۔ اگر آپ blame ہی man کو کرتی ہیں تو how can you expect man to fight for your rights. دوسری بات یہ ہے کہ اب میں issues کی طرف آؤں گا I will not take more than three minutes. Red light area violence کی طرف آؤں گا اور I will seriously talk on the issues. Violence goes around there like AIDS and poverty. Female sex workers that is FSW have been working without any protective measures you do not provide their children education. This is Pakistan and we can not, we do not talk about sex. This is so a non-issue we do not talk about it. تیسری بات یہ کہ مرد حضرات کو میں اس میں blame بلکہ a good chunk of the blame you cannot denounce اس لیے کیونکہ Mr because it is you who goes in that area. They represent each and every, one of you the most religious and the most secular. Those who go in there, they represent each and every one of you. آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ ایک issue ہے کہ women کی Air Force میں بھرتی کا۔ اس میں سیدھی بات یہ کروں گا کہ women pilots need different norms, they need different training process because you cannot hit them which is normally a part of the training. So, it is really a burden on the state and muscle weight of woman is 12% and the muscle weight of man's body is 47%. میری بہنیں ہیں اور میں آپ کی بے انتہا عزت کرتا ہوں۔ آپ مہربانی کر کے اس میں اتنے extreme western contemporary feminism. اس میں ایک چیز ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہو جائیں، اس میں ایک چیز ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ liberty, the women have to show their liberty by wearing less clothes, by cutting their hair short, cause آپ کا انتہائی damage ہوگا۔ Let us get on the serious issues.

Thank you Mr. Speaker.

Mr. Speaker: Thank you. Now, I put the Resolution first to the House. "This House is of the opinion that social discrimination in the form of Women Rights' Violation should be strongly condemned and be brought to a halt."

(The Motion was carried.)

Mr. Speaker: The Resolution is adopted. Now, I move on to Resolution No.2 and it is agenda item No.3. It is moved by Mr. Samir Anwar Butt.

Mr. Yawar Hayaat Shah: I beg to move that this House is of the opinion that Public Transportation Modes should be promoted. The increasing number of cars is heavily contributing to traffic and pollution.

جناب سپیکر! ٹریفک کی بڑھتی ہوئی تعداد ایک بہت بڑا مسئلہ بن کر اس ملک میں ابھرا ہے جس کی وجہ سے آئے دن حادثات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ ٹریفک کی وجہ سے pollution کا ہے۔ یہ قابل افسوس امر ہے کہ ماحولیات کے لیے کوئی واضح اور خاطر خواہ اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ Factories and Industries کے علاوہ دھواں چھوڑتی گاڑیاں ماحول کو آلودہ کرنے میں بہت negative role ادا کر رہی ہیں اور Ozone layer depletion ایک گلوبل issue ہے جس میں ٹریفک سے ہونے والی آلودگی ایک کردار ادا کر رہی ہے۔

جناب سپیکر! میں یہاں پر چند suggestion دینا چاہوں گا جو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بہت مثبت کردار ادا کر سکتی ہیں۔ نمبر ۱ پر یہ ہے کہ جہاں پر خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں public transport میں ان کے لیے الگ بسیں چلا کر ان کے rights کو preserve کیا جائے۔ سی این جی بسیں چلائی جائیں اور اس culture کو فروغ دیا جو کہ ایک gradual process کے تحت ہوگا کیونکہ ہمارے سسٹم میں competition کی فضا پیدا ہو چکی ہے کہ پرائیویٹ گاڑیوں کے آئے دن نئے models replace کرنے کا ایک نظام چل نکلا ہے اس کو کسی ایسے education system کے ذریعے ہم اسے curtail کریں گے جو آہستہ آہستہ لوگوں کو public transport کی طرف لے کر آئے گا اور ان بسوں سے ٹریفک آلودگی اور fiscal problems آ رہے ہیں وہ کم ہونے میں مدد ملے گی۔ یہاں پر ضرورت ہے کہ بنکوں کی جو leasing شرائط ہیں ان کو تھوڑا سخت کیا جائے تاکہ جو private گاڑیوں کے competition کے رجحان کو کم کیا جائے۔ حکومت وقت کو ماحولیاتی پالیسی وضع کرنے کی ضرورت ہے۔

جناب سپیکر! یہاں پر ایوان کی توجہ چاہوں گا کہ ان تمام suggestions کے ساتھ ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان تمام مسائل کا حل social capital کو بڑھانے میں ہے۔ یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو base کرتا ہے cohesion, cooperation and coordination پر اور a wide radius of trust is required here right now. یہ تمام مسائل cooperation سے حل ہو سکتے ہیں اور coordination کا گہرہ رشتہ عوام اور حکومت کے درمیان اگر قائم کیا جائے تو لوگوں میں احساس ذمہ داری پیدا ہوگی اور اس ملک کے مسائل کو حل کرنے اور اس دنیا کے ماحول کو بچانے کے لیے یہ لوگ حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے اور حکومت لوگوں کے ساتھ تعاون کرے گی تو یہ تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔

Mr. Speaker: Thank you very much.

سید وقار احمد: السلام علیکم! شکریہ معزز سپیکر! مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں ایک ایسے topic پر بول رہا ہوں جو ایک common کے لیے important ہے اور اس کے everyday life میں اسے affect کرتا ہے لیکن اس topic کا ایک economic, environmental اور ایک strategic angle بھی ہے جو پاکستان کی فلاح کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسے جیسے ہماری آبادی بڑھ رہی اس کی جو logistic needs ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں travel and transportation کے حوالے سے۔ Importing cars is the short term method of meeting these means not the long term method جن پر وہ run کرتی ہیں وہ دونوں import commodities ہیں اور پاکستان میں نہیں پائی جاتی اور اس سے ہمارے foreign exchange reserves بھی deplete ہوتے ہیں اور ہمارا trade deficit بھی بڑھتا ہے۔ اس کا alternative public transportation of mass transit system ہے جو زیادہ efficient ہوتا ہے، cost effective بھی ہوتا ہے اور environment friendly بھی ہوتا ہے اور اسے promote کرنے کی اشد زیادہ ہے۔ Available options جو ہمارے پاس ہیں، وہ mega projects ہیں، اس میں city rail system آ جاتا ہے، subway system آجاتا ہے لیکن اس پر criticism یہ ہے کہ یہ بہت expensive ہوتے ہیں ان کی running and maintenance cost بھی زیادہ ہوتی ہیں اور ان کے لیے جو technology چاہیے وہ پاکستان میں available نہیں ہے اور اس technology کو بھی خریدنا پڑے گا لہذا بہت سارے professionals کہتے ہیں کہ یہ option پاکستان کے لیے viable نہیں ہے۔ Alternative existing public transportation system bus system ہیں جس میں bus system سے زیادہ widespread ہے۔ اس کی coverage سب سے زیادہ ہے اور سب سے زیادہ use

بوتا ہے اگر اس کو استعمال کیا جائے اور promote کیا جائے تو یہ سب سے اچھا alternative ہے۔ اس کی اگر problems ہم دور کرنے کی کوشش کریں تو identify اگر problems تو سب سے بڑی problem یہ ہے کہ بسوں کا standard بہت خراب ہوتا dilapidated buses ہوتی ہیں اور smoke belch کرتی ہیں۔ ان کا general interior بہت بری حالت میں ہوتا ہے۔ Conductor and drivers کی training نہیں ہوتی۔ Drivers buses خراب طریقے سے چلاتے ہیں اور conductors بدتمیزی کرتے ہیں۔ Finally یہ ہے کہ buses schedule پر نہیں stick کرتیں۔ اگر کسی کو دفتر جانا ہے یا سکول جانا ہے تو وہ bus system پر rely نہیں کر سکتا۔ اس کو اپنی transportation arrange کرنی پڑتی ہے۔ حکومت اس کے لیے کیا کر سکتی ہے یا پارلیمنٹ کیا کر سکتی ہے وہ تھوڑے سے laws enact کر سکتی ہے کیونکہ یہ buses mainly privately owned ہیں تو اگر حکومت اپنا consumer protection arm strong کر دے زیادہ power دے کہ وہ ensure کرے کہ جتنی بھی private buses ہیں وہ certain minimum standard meet کرتی ہیں تاکہ لوگ زیادہ encourage ہوں، زیادہ confident feel استعمال کرنے کے لیے۔ یہ consumer protection arm standard enforce کرے۔ جتنی بھی problems ہم نے identify کی ہیں وہ انہیں دور کرے۔ Finally Government private-public partnership کے ذریعے financing کر سکتی ہے تاکہ زیادہ اس business میں آئیں، جن routes پر بسیں نہیں چلتیں یا کم چلتی ہیں ان کے اوپر بھی بسیں چلائی جائیں۔ بس مالکان اور ڈرائیوروں کو شکایت ہوتی ہے کہ پولیس والے انہیں تنگ کرتے ہیں اور بغیر کسی political support کے وہ یہ business run نہیں کر سکتے۔ اس شکایت کو بھی دور کیا جائے اور پولیس کو اس business سے دور رکھا جائے۔ Simple low tech or common sense approach ہے جو پارلیمنٹ use کر سکتی ہے اس کو promote کرنے لیے۔ شکر یہ۔

Mr. Speaker: Thank you. Now I offer the floor to honorable Asad Asghar Janjua sahib.

جناب اسد اصغر جنجوعہ: شکر یہ جناب سپیکر! یہ issue جو ایوان میں اٹھایا گیا ہے یہ بہت اہم ہے کیونکہ آئے دن پبلک کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو public transport mode ہے اس میں جو بنیادی مسائل ہیں اس میں ایک تو جیسے میرے معزز ساتھی نے ذکر فرمایا کہ پولیس والے بہت تنگ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے بس والوں کو کرائے بڑھانے پڑتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جب وہ بسوں پر یا public transport system پر پولیس والے بے ایمانی کریں گے تو انہیں اس کو tackle کرنا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت کو کرایوں کے اوپر ایک ایسا check رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی transporter کرایوں کو نہ بڑھائے۔ کیونکہ جیسے ہی تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں اگلے دن کرایہ ڈبل ہو جاتا ہے لیکن جس دن تیل سستا ہوتا ہے اس دن کرایہ کم نہیں ہوتا بلکہ مزید بڑھا دیا جاتا ہے یہ چیز عوام کو بہت تنگ کرتی ہے۔

اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ بینکوں کا جو leasing system ہے اس میں جیسے لاہور میں ایک ماہ میں بیس ہزار گاڑیاں سڑکوں پر آتی ہیں لیکن اس حساب سے ہماری سڑکوں کو تعمیر نہیں کیا جاتا یا کوئی ایسا سسٹم نہیں بنایا جاتا کہ ان بیس ہزار گاڑیوں کو accommodate کیا جاسکے۔ اس کی وجہ سے traffic jam ہوتا ہے اور وہ سارے سسٹم کو معطل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو leasing system ہے اگر اس کو public transport system کی طرف encourage کیا جائے، یعنی local transport buses, wagons اور bus stops کی construction کے لیے تو یہ چیز زیادہ فائدہ مند ہوگی با نسبت اس کے کہ ہم individual transport modes کی طرف جائیں کیونکہ پاکستان میں زیادہ طبقہ یا تو middle class ہے یا غریب ہے وہ ان گاڑیوں وغیرہ کو تو afford نہیں کر سکتے تو public transport ایک ایسا mode ہے جو ان کو دفتر، سکول، کالج اور یونیورسٹی لے کر جاتا ہے۔ جب ہم اس system کو بہتر بنائیں گے تب ہی عوام کو فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو بسوں کی تعداد بڑھانی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بسوں کی حالت کو بھی ٹھیک کیا جانا چاہیے کیونکہ پاکستان میں جو بسیں ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ اگلا دروازہ ہے تو پچھلی کھڑکی نہیں ہے، اگر پچھلی کھڑکی ہے تو اگلا دروازہ نہیں ہے۔ ان حالات میں اکثر حادثات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جب حادثات زیادہ ہوتے تو لوگ public transport میں

سفر کرنے سے کتراتے ہیں۔ بسوں کی حالت کو بھی regulate کرنے کے لیے ایک authority بنانی چاہیے، اگر حکومت پر عملدرآمد کرے تو کافی بہتری آسکتی ہے۔ شکر یہ۔

Mr. Speaker: Thank you. Now I offer the floor to honorable Muhammad Moin Akhtar.

جناب محمد معین اختر: جناب سپیکر! بہت شکر یہ۔ میں ruling party کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک عام آدمی کے مسئلے پر توجہ دی۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جب ہماری قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو اگر وہ آپ دیکھیں کہ قومی اسمبلی کی پارکنگ اور تہہ خانے میں کروڑوں کی گاڑیاں نظر آتی ہیں۔ ہمارے ارکان اسمبلی Land Cruisers, Mercedes and BMWs میں سفر کرتے ہیں۔ جب یہ باہر نکلتے ہیں تو تیرہ تیرہ بیس بیس گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ نکلتے ہیں۔ ان کی گاڑیاں دیکھ کر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ارکان اسمبلی امریکہ، فرانس، برطانیہ، جاپان اور بھارت کے ارکان اسمبلی سے زیادہ امیر ہیں۔ ایک ایسے ملک میں جہاں وزیراعظم، صدر، گورنر پندرہ پندرہ کروڑ کی بلٹ پروف گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں اور اکیس گاڑیوں کی سیکورٹی کے ساتھ جہاں وہ جاتے ہیں وہاں کی ٹریفک روک دی جاتی ہے۔ اگر ruling party کو عوام کا اتنا ہی احساس ہے تو براہ مہربانی اس مسئلے پر بھی ایک resolution لے کر آئیں کہ ہمارے صدر، وزیراعظم یا گورنر صاحب جہاں بھی جائیں وہاں کی ٹریفک نہ روکی جائے۔

جناب سپیکر! پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف بہتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹریفک کے حوالے سے عوام میں شعور لایا جائے تو پہلے ارباب اختیار کو سمجھائیں کہ وہ اپنی گاڑیوں کی تعداد کو کم کریں اور عوام کے لیے role of model بنیں۔ ایک طرف ہمارے ارکان اسمبلی گاڑیوں کے قافلوں کے ساتھ سفر کرتے ہیں اور مجھ جیسی عوام جنہوں نے بڑی مشکل سے قسطوں پر گاڑی لے ہوتی ہے ان کی گاڑیوں پر اعتراض کیا جاتا ہے اگر آج سے آپ rule بنا دیں کہ ہمارے جتنے وزراء ہیں، ارکان اسمبلی ہیں، جو secretaries ہیں وہ daily public transport میں سفر کریں گے تو میں بھی اپنی گاڑی چھوڑ دوں گا۔ میں بھی public transport میں سفر کرنا شروع کر دوں گا۔ میں یہاں پر ruling party سے صرف یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آلودگی کا انہوں نے issue اٹھایا بہت اچھا issue ہے لیکن اس میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا آلودگی عوام کی گاڑیوں سے ہوتی ہے، حکمرانوں کی گاڑیوں سے نہیں ہوتی۔ آج سے دو سال پہلے Indian Supreme Court نے دہلی میں فضائی آلودگی کے بارے میں ایک فیصلہ دیا تھا جس کے بعد دہلی میں public transport system کو بہتر کیا گیا تھا۔ بسوں کے system کو local train system کو under ground railway system کو بہتر کیا گیا تھا۔ ہمارے ہاں یہ حال ہے لاہور میں پچھلے چھ سال سے under ground railway system کا منصوبہ منظور ہے لیکن اس پر کام نہیں ہو رہا۔ براہ مہربانی اس حوالے سے قانون سازی کریں کہ تمام جو بڑے شہر ہیں جو فضائی آلودگی کے مسئلے کا شکار ہیں وہاں پر specially public transport جس طرح کراچی ہے، اسلام آباد ہے یہاں پر public transport کو فروغ دیا جائے۔ بہت شکر یہ۔

Mr. Speaker: Thank you very much. Now I offer the floor to honorable Sufian Ahmad Bajar.

Mr. Sufian Ahmed Bajar: Thank you Mr. Speaker. I would like to say that my fellow members talked about the bus system that the buses need to be improved, the police need to be properly checked upon and other things. I would like to really elaborate the urban transport system in the western countries. We should really be following them because the buses would help in the rural areas but in cities where the population is 10 to 20 million the buses can never help. If you look upon London, New York, over there we see the underground rail system and daily millions of people travel there. Buses are not feasible. Many of us would have to London. You know that کہ لندن میں بھی بس میں جانے میں گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ جو under ground train ہے that takes hardly two to three minutes for the same distance. اس لیے لاہور میں اور

کراچی میں جو urban units ہے I would propose that underground rail system on the roads in place چاہیے اس کے علاوہ جو tram system ہے کہ جو trains ہیں وہ pollution اس سے نہیں ہوگی of cars چلائی جائیں تاکہ زیادہ لوگ اس میں سفر کریں اور pollution اس سے نہیں ہوگی کیونکہ they are mostly electric powered اس کے علاوہ میں بتانا چاہوں گا کہ جو نیو یارک کے جو میٹرز ہیں روڈی جولینائی اور مائیکل بلومبرگ they always used to travel once a week in the underground rail system and that motivates the people to travel in the transport system of your country and if that is not done why would ordinary people travel in that? I would agree with Mohsin زرداری صاحب پچاس گاڑیوں کے قافلے میں جاتے ہیں اور گیلانی صاحب گاڑی تو دور کی بات وہ جہاز بھی پرائیویٹ میں جاتے ہیں تو کونسی سی عوام public transport میں جائے گی۔ شکر یہ۔

Mr. Speaker: Thank you, I am grateful that everybody is respecting the time limit. Now I offer the floor to honorable Aurangzeb Marri.

جناب اورنگزیب مری: بہت بہت شکر یہ جناب سپیکر! جناب سپیکر یہاں پر local transportation system کی بات ہو رہی ہے۔ بہت اچھی suggestions آئی ہیں اور اس پر کافی اچھی طرح بات ہو رہی ہے۔ میں اپنی کچھ suggestions دینا چاہوں گا۔ We would love to travel through local transportation system but there have to be some revamping measures, there have to be some changes in transportation system. سب سے پہلے تو اگر آپ لوکل بسوں کی بات کر تے ہیں تو ایک شہری علاقے میں اگر ایک بندہ بس سٹاپ پر کھڑا ہوتا ہے تو وہ بس روکنے کی کوشش کرتا ہے تو چار کلو میٹر آگے جا کے تو بس رکتی ہے۔ اس سے اچھا ہے کہ وہ جہاں جا رہا ہے وہ پیدل ہی چلا جائے۔ بسوں کے پیچھے بھاگے گا تو ایسے نہیں ہو سکتا۔

دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ بس میں بیٹھیں تو جہاں آپ نے جانا ہوتا ہے، پچاس دفعہ تو آپ قل پڑھ چکے ہوتے ہیں کہ ہم صحیح سلامت منزل پر پہنچ جائیں۔ جناب سپیکر! اس طرح کے مسائل ہیں کہ ہمیں proper buses کی ضرورت ہے۔ میری رکن اسمبلی نے mention کیا کہ عورت کے different buses ہونی چاہئیں۔ میں اس سے اتفاق رائے نہیں کرتا کہ اگر آپ عورتوں کے لیے different buses بنا رہے ہیں ہم human rights and women rights کی بات کر رہے ہیں آپ ان کو مردوں سے کیوں علیحدہ کر رہے ہیں۔ ان کو same buses میں جانا چاہیے۔ ان کو same buses میں ہمارے ساتھ travel کرنا چاہیے آپ کو ان کو اور segregate کر رہے ہیں آپ ان کو اور پردے میں رکھ رہے ہیں غلط بات ہے۔

جناب سپیکر! ہمارے ہاں ایک اور بہت بڑا problem handicap لوگوں کے لیے ہے۔ There is no easy access to your local transportation to handicap people. کوئی ramp نہیں ہے جس سے وہ بس پر آسکیں۔ یہاں پر کوئی ایسی بس نہیں ہے۔ باہر کے ملکوں میں بسیں آپ کے لیے نیچے جھک جاتی ہیں۔ ان کے hydraulic سے وہ نیچے جھک جاتی ہیں تاکہ people on wheel chairs can travel on these buses, they can climb on these buses مگر یہاں پر کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کو wheel chair پر جانا ہے پہلے چہ بندے بلاو، ان کی wheel chair اٹھاؤ اور بس میں ڈالو ان کو پھر لے کر جاو۔ اس طرح کا سسٹم ہمیں نہیں چاہیے۔ We need to change and we really need to revamp the bus system. جس طرح میں آپ کرتا ہوں کو ایک مثال دینا چاہوں گا کہ جس شہر سے میں belong کرتا ہوں وہاں پر taxi system بہت amazingly revamp ہوا ہے۔ کچھ سال پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم گھر سے فون کریں گے اور ٹیکسی پندرہ منٹ میں ہمارے گھر آجائے گی اور بہت ہی affordable rates پر اتنے expensive rates نہیں ہیں۔ ایک opportunity cost ہے وہ آپ کو pay کرنی پڑتی ہے۔ It saves you the time کہ آپ جا کر پیدل کے پیچھے بھاگیں۔ اس طرح کے revamping measures چاہئیں ہمارے bus system کے لیے تاکہ people can easily access buses, they can easily access public transportation and educated drivers, proper drivers travel کر رہے ہیں ان کی safety کا خیال رکھیں۔ Properly ان کو اپنی destination پر پہنچائیں اور ایک proper route mention ہونا چاہیے۔ ہمارے شہر میں گرین بسیں چلی ہیں وہ

بہت اچھی بسیں ہیں مگر وہ کچھ علاقوں تک محدود ہیں ایک اور problem ہے ان کے جو stops ہیں وہ بہت دور ہیں اگر کسی کو ایک علاقے میں رکنا ہے پہلے اس کو ایک اور area سے اترنا پڑے گا پھر اس کو وہاں سے اپنے علاقے میں جانا پڑے گا۔ تو اگر آپ buses introduce کروا رہے ہیں تو آپ پلیز ان کی routes کو دیکھنا ہے کہ وہ بالکل صحیح ہوں اور جو locations ہے۔ باہر کے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کو اترنا ہے بٹن دبائیں اور بس رک جاتی ہے۔ یہاں پر اچھی بسیں introduce کی گئیں ہیں وہ اس طرح نہیں کرتی وہ صرف اپنے سٹاپ پر رکتی ہیں۔ and this becomes pretty hard for people to commute. تو بنیادی طور پر یہی کچھ suggestions تھیں جو میں بتانا چاہتا تھا۔ شکریہ جناب سپیکر۔

Mr. Speaker: Thank you. I offer the floor to honorable Samir Anwar Butt.

Mr. Ahmed Ali Babar (Prime Minister): Point of order Mr. Speaker.

Mr. Speaker: Yes.

جناب احمد علی باہر: اس Resolution کے اندر میں Leader of the Opposition کے consent سے جو "promoted" word ہے اس کی جگہ "improved and encouraged" کرنا چاہوں گا۔

Mr. Speaker: Thank you I will read it accordingly. Honorable Butt has the floor.

جناب سمیر انور بٹ: شکریہ جناب سپیکر۔ میرے خیال میں اتنی positive debate ہو رہی ہے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں اس resolution کا میں mover بھی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگ کہ جو suggestions آئی ہیں۔ سب سے پہلے ٹرین کا کہ بڑی آبادی والے شہروں میں ٹرین ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں یہ بھی حکومت کو welcome کرنا چاہیے اور جو دوسرا suggestion handicaps کا۔ میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے aged citizen ہیں اور جو handicaps ہیں ان دونوں کے special اقدام کرنے چاہئیں، بالکل کرنے چاہئیں۔ and we welcome that.

دوسرا، میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ بہت سے ملکوں میں ایسے ہوتا ہے کہ individual traveling ہے اس پر بڑی heavy taxation ہوتی ہے۔ In the sense کہ کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پارکنگ کے اوپر ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ Fuel کے اوپر heavy taxation ہوتی ہے اور car insurance compulsory کر دی جاتی ہے۔ یہ سب steps آپ کو help کرتے ہیں کہ آپ اپنی گاڑی کی جگہ public transport use کریں۔ اب ہمارے ہاں ایک ایسا culture بن چکا ہے جس کے اندر ہم نے اگر ساتھ والی مارکیٹ بھی جانا ہوتا ہے تو ہم گاڑی نکال کر جاتے ہیں ان سب چیزوں کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا۔ سب سے اہم issue car financing کا تھا جس کی وجہ سے میں اس کو support کرنے کے لیے motivate ہوا تھا وہ یہ ہے کہ پچھلی حکومت نے car financing کی جو پالیسی بنائی تھی وہ بالکل inappropriate تھیں ہماری سڑکیں اتنی گاڑیوں کے تیار ہی نہیں تھیں لیکن اب اسلام آباد میں اتنی ٹریفک ہو گئی ہے کہ وہ ناقابل برداشت ہو گئی۔ ٹریفک جام بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ جو لوگ گاڑی نہیں بھی لے سکتے تھے انہوں نے اب دو دو گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اس کا فائدہ کی جگہ نقصان ہو رہا ہے۔ اس کا حل صرف بسیں اور ٹرین ہی ہے۔ ابھی ایک project pipeline میں ہے میں چاہوں گا کہ یہ حکومت سے درخواست کریں اور ہماری یوتھ پارلیمنٹ کی طرف ایک بڑی strong suggestion جائے کہ اس کے اوپر speedy کام ہونا چاہیے اور یہ جلدی سے سی این جی کی بسوں کا جو idea ہے بالکل pollution free اور ایک بڑا اچھا mass transportation کا method ہے میرے خیال میں ہماری یوتھ پارلیمنٹ سے strong suggestion جانی چاہیے۔ شکریہ۔

Mr. Speaker: Now I offer the floor to honorable Zahid Ullah Wazir.

Mr. Zahid Ullah Wazir: Thank you Mr. Speaker. It is good to improve and encourage public transport system because the Pakistan's population is too much (*Masha Allah*). The vehicles they will not go empty and also we have observed that people are stuffed into these vehicle rather than they accommodated. So, I am in agreement with the first part but with the second part I am not in agreement because we know that there is a close link between consumption and production. If we are consuming more we will be producing more and if we are producing it will add to the GDP growth and if we have increased the GDP growth we will be progressing. So, we will progress. It is also against the freedom of choice. Everyone is free to choose what one wants to travel in. So, it should be respected. And also the pollution, transport is one of the sources of air pollution. But there are also other industries which are producing chlorofluorocarbon, hydro-chlorofluorocarbon, methyl-carbon dioxide and all these things. So, they are adding more as compared to this source of pollution. So, there should be a proper mechanism to reduce air and water pollution and as most of the scientists are predicting that the earth is in peril because of global warming which is because of release of these various gases into the atmosphere. Thank you.

Mr. Speaker: Honorable Taimur Skindar Choudhry from Blue Party.

Mr. Taimur Skindar Choudhry: Thank you Mr. Speaker.

transportation sector نے سب لوگوں کو آج جو یہاں پر خوش ہوں آج جو یہاں پر سب لوگوں نے develop کرنے کے لیے رائے دی اور تجاویز دیں۔ میں یہاں پر ایک اور چیز کہنا چاہوں گا we which I think is the most important one need to educate the masses about the rules and regulations of the traffic میں public transport پر یہاں کی کہ لوگ یہاں پر regulating authorities۔ but the سے کتراتے ہیں کیونکہ اس میں کھڑکیاں نہیں ہوتیں، دروازے نہیں ہوتے، main rules کیوں کہ جو ہمارے public transport کے drivers ہیں ان کو and regulation کا پتا نہیں ہے۔ They are illiterate people جو گاڑی کو جہاز کی طرح چلاتے ہیں اور واقعی جیسے میرے معزز ممبر نے کہ بندہ قل پڑھتے ہوئے جاتے ہیں واقعی یہ I think we need to emphasize on educating the masses about the rules۔ and regulation set by the traffic authorities۔ Secondly، جو license issuing authorities ہیں۔ اکثر میں نے کئی جگہوں پر دیکھا ہے کہ جن کے پاس contacts ہوتے ہیں یا جو کسی clerk کو بھی جانتے ہیں ان کو license without any driving test مل جاتا ہے جن کا کوئی جان پہچان والا بندہ نہیں ہوتا کہ جس کو he has to go through a test that is good کہ جس کا کوئی جاننے والا ہے وہ test نہ دے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ people who do not know even the ABC of driving on the roads and they are a hazard to the people around them۔ So، I would definitely like to bring attention of the parliament towards stressing the license issuing authorities to stick to their rules and regulations اور ہر ایک کو through licence کے proper channel دیا جائے۔ because نہ کہ یہ ہو کہ جن کا کوئی تعلق ان کو بغیر driving test کے licence مل جائے۔ dangerous ہے بلکہ جو ان کے اردگرد that is very dangerous لوگ ہیں جن کی جانیں ان سے بھی قیمتی ہیں ان کے لیے بہت dangerous ہے۔ کافی حادثات اسے وجہ سے ہوتے ہیں کہ we see people جو driving کا کچھ نہیں پتا but they say وجہ سے ہوتے ہیں کہ licence پاس ہے ہم نے licence لیا ہوا ہے۔ وہ licence نہ ہونے کے برابر ہے۔ I would like to bring attention of the House towards this issue and I would like everyone to emphasize on the importance of educating the masses about the rules and regulations set by the traffic authorities. Thank you very much.

Mr. Moin Akhtar: Point of order, Mr. Speaker.

Mr. Speaker: Yes.

جناب معین اختر: جناب والا میں یہ point out کرنا چاہوں گا کہ life ہر ایک کی ایک جتنی sacred ہوتی ہے تو کسی کی زندگی کم یا زیادہ قیمتی نہیں ہونی ہر انسانی زندگی کی قیمت ایک ہی ہوتی ہے۔

ایک معزز رکن: یہاں پر عوام کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے وزیراعظم کی جان کی قیمت ہے ارکان اسمبلی کی جان کی قیمت ہے لیکن ایک عام بندے کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔

Mr. Speaker: Now I offer the floor to honorable Bibi Gul Bano.

محترمہ بی بی گل بانو: شکریہ جناب سپیکر! ایک تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ کم از کم عورتوں کے حقوق کا خیال بسوں میں تو رکھا جاتا ہے کہ ان کو جگہ دی جاتی ہے۔ Thanks for it.

جناب سپیکر: یہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ عورتوں کی بسوں کی driver بھی عورت ہو۔

محترمہ بی بی گل بانو: جہاں تک سی این جی بسوں کی بات چل رہی ہے تو سی این جی بسوں کی بات تو اس وقت کریں جب سی این جی کی کاریں صحیح طریقے سے چل پا رہی ہوں۔ اکثر دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ سی این جی کی کار bridges کے اوپر چل ہی نہیں پاتی تو بسیں اتنی بڑی کس طریقے سے چل پائیں گی۔ دوسری بات جناب سپیکر! باہر کے ملکوں میں اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ odd نمبروں کی گاڑیاں ایک دن چلتی ہیں اور even نمبر کی دوسرے دن چلتی ہیں اس طریقے سے بھی ٹریفک کو کافی حد تک control کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو گاڑیاں بہت زیادہ دھواں نکالتی ہیں ان گاڑیوں کو ان بسوں کو ban کر دیا جانا چاہیے، ساتھ ساتھ جو drivers بالکل illiterate ہیں ان کی بھی training ہونی چاہیے۔ پاکستان میں اس طرح کا ایک setup start بھی ہوا تھا لیکن وہ شاید زیادہ صحیح طریقے سے چل نہیں پایا جس میں drivers کو باقاعدہ train کیا جاتا تھا۔ گاڑیوں کی تعداد تو بڑھ گئی ہے لیکن routes میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے transportation کا problem رہتا ہے اگر گاڑیاں بڑھ رہی ہیں تو ساتھ میں routes بھی بڑھنے چاہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ گاڑیاں lease پر لے لی جاتی ہیں۔ اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جن کے پاس گھر نہیں ہے یا جن کی دس ہزار تنخواہ بھی نہیں ہوتی ہے ان کے پاس بیس بیس، دس دس لاکھ کی گاڑیاں ہوتی ہیں تو میرے خیال میں اس کے لیے کوئی strong laws ہونے چاہیے۔ ایک تو ان لوگوں کے خود پر بوجہ ہے کہ وہ قسط نہیں دے پاتے ہیں دوسرا transportation کا problem بھی ہو جاتا ہے اور گاڑیوں کی جہاں تک بات ہے، personal transport کے لیے تو اس پر بھی ہم اس وقت ہی بات کر سکتے ہیں جب بسوں کا، government transportation کا نظام بہت اچھا ہوگا۔ اگر ان کی condition اچھی ہوگی، physical appearance اچھی ہوگی تو شاید لوگ اس میں سفر کرنا بھی پسند کریں گے۔ شکریہ۔

Mr. Speaker: Thank you. I am happy that every body has respected the time limit that has given me extra time to give one member on each side the floor. So I offer the floor on the Blue Party, Zamir Ahmed Malik.

محترمہ ام عمارہ: یہ گل بانو نے mention کیا کہ bridge پر گاڑیاں نہیں چل سکتیں یہ ناقص CNG kits کی وجہ سے نہیں ہے، اس میں گیس کا کوئی قصور نہیں ہے۔

جناب ضمیر احمد ملک: جناب سپیکر! آج چونکہ اس ایوان کا آخر دن ہے تو آپ کی خدمت ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا۔

اس طرف چلے ہو تو بس اتنا اسے کہنا

اور نہ سننے کوئی بس تنہا اسے کہنا
کچھ لوگ موضوع سفر نہیں ہوتے
کچھ راستے کھتے نہیں تنہا

تو میں یقین کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی آتے رہیں گے۔ جناب والا! اس سے پہلے ہم uniform system of education کی بات کر رہے تھے اور آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ uniform system of transportation کی بات ہو رہی ہے۔ جناب سپیکر! یہ ایک حقیقت ہے کہ غریب، غریب ہے اور امیر، ایک امیر ہے اس کے پاس گاڑی ہے ہمارے عیصام رحمانی صاحب کے پاس بھی گاڑیاں ہیں اور ہمارے پاس نہیں ہیں۔ جناب سپیکر! حد تو یہ ہے کہ ایک امیر ہر قسم کے communication کے ذرائع استعمال کر کے ہر جگہ پہنچ سکتا ہے لیکن غریب تو گدھا گاڑی بھی نہیں رکھ سکتا کیونکہ گدھے کو بھی کچھ کھلانا ہے نا، کہاں سے لائے پیسہ۔ جناب والا! یہ ایک حقیقت ہے اس Youth Parliament of Pakistan سے ایک صدا، ایک بکا نکلے اور وہ صدا ہو equality کی، uniform system of transportation کی تو جناب والا! میں سمجھتا ہوں کہ اگر کم گاڑیاں ہونگی تو تیل بھی بچے گا اور جب تیل بچے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ تیل کم استعمال ہوگا اور حکومت زیادہ سے زیادہ subsidy دے سکے گی۔ جب حکومت زیادہ سے زیادہ subsidy دے گی تو وہ تیل کسان استعمال کریں گے اور کسان آپ کو فصل دیں گے، اس فصل سے آپ اپنی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں۔

جناب والا! ہر مسئلے کا حل صرف اور صرف اس ملک کے باری کے پاس ہے۔ یہ جو سڑکوں کی بات کر رہے ہیں ہمارے کراچی میں پٹھان transport ہے، ہر driver, cleaner پٹھان ہے۔ وہاں ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کچھ رکشے ban کئے گئے کہ بھئی آپ کے یہ رکشہ دھواں چھوڑتے ہیں تو پٹھانوں نے پورا کراچی بند کر دیا۔ ہماری civil society کو بھی ادراک نہیں ہے کہ یہ دھواں نقصان دیتا ہے۔ تو civil society کو اگر ہم ایک دم روکیں گے تو ظاہری بات ہے کہ کچھ شہروں میں ایک لسانی جنگ ہو سکتی ہے۔ ہمیں ایسے ideas کے ساتھ آنا چاہیے کہ حکومت کو چاہیے کہ ان غریبوں کو جس کے پاس رکشہ ہے اس کو یا تو کوئی بس دلا دیں۔ جناب ہو سکتا ہے، آپ ایک industrialist کو پندرہ فیصد سود پر، یا سترہ فیصد سود پر قرضہ دے دیتے ہیں لیکن غریب باری کو کسان کو آپ پانچ پانچ فیصد پر بھی نہیں دیتے اس کو بولتے ہیں 25% لاؤ، 30% لاؤ تو ظاہر سی بات ہے کہ کیوں کیا وجہ ہے۔ خون پسینے کی ہماری کمائی ہے غریب کی کمائی ہے۔ تو اب یہ transportation کا مسئلہ ہے اور communication کا مسئلہ ہے تو اس پر بہت اچھی رائے آئی ہیں اور میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ جناب! جب تک bus stops نہیں بنیں گے اس وقت تک traffic کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لہذا bus stops بھی بننے چاہئیں اور CNG buses کو promote ہونا چاہیے اور حکومت کی طرف سے ایک campaign چلنی چاہیے to promote کہ بھئی جو ہمارے کچھ بھائی ہیں انہوں نے leasing پر گاڑیاں لے لی ہیں۔ خدا کے واسطے قسطیں تو آپ دیتے ہی نہیں ہیں اور اس طرح State Bank کو نقصان پہنچتا ہے۔ لہذا آپ ان گاڑیوں کو چھوڑیں اور انہیں غریبوں کے ساتھ سفر کریں اور یہاں بات آئی خواتین کے لیے الگ buses کی۔ جیسا کہ ہمارے مری صاحب نے کہا جو چلے گئے ہیں کہ الگ بسیں ہونی چاہئیں۔ کیوں الگ ہونی چاہئیں۔ جب یہ equality کی بات کرتی ہیں تو جب ہم کھڑے ہو رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہوں۔

جناب والا! آخر میں میں اس ایوان کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ پرسوں میرے ساتھی یاور عباس نے evening courts کی suggestion دی اور وزارت قانون نے ان courts کے قیام کا فیصلہ کیا ہے۔ میرے خیال میں یہ اس ایوان کی جیت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔

جناب نیاز محمد: جناب سپیکر صاحب! Point of order. ضمیر ملک صاحب نے پٹھانوں کی بات کی ہے اور انہوں نے کراچی کو quote کیا ہے۔ وہ ان لوگوں کی بات کیوں نہیں کرتے جنہوں نے پورے کراچی کو highjack کیا ہے۔

جناب ضمیر احمد ملک: جناب سپیکر صاحب، point of clarification جناب والا پٹھان ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ وہ کراچی میں آئیں تو ہمارے گھر حاضر ہیں۔ میں نے کسی پٹھان کی بات نہیں کی، میں نے transport کی ہے اور جنہوں نے کراچی میں highjack کیا ہوا ہے انہیں یہ بھی بتا دیں کہ کراچی کسی کا نہیں ہے۔ کراچی پنجابی کا ہے، پختون کا ہے، بلوچ کا ہے، مہاجر کا ہے اور سندھی کا ہے۔

Mr. Speaker: Now, I offer the floor to honourable Sher Afgan Malik.

جناب شیر افگن ملک: شکریہ جناب والا۔ یہاں سے ایک suggestion آئی تھی sub ways کی کہ وہ polute نہیں کرتیں۔ تو اس پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ sub ways چلانے کے لیے بجلی چاہیے ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہ sub ways وہاں چلتی ہے جہاں بجلی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو huge electricity production ہے وہ thermal power جو through oil ہے تو اس سے اتنی ہی pollution ہو جاتی ہے۔ میں suggestion دینے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ صرف urban areas میں ہی نہیں بلکہ rural areas میں بھی public transportation کی ضرورت ہوتی ہے اور وہاں alternative public transport اس طرح provide کی جا سکتی ہے کہ جس طرح روزگار سکیم کے اندر CNG Rikshas تھے ان کو rural areas میں sale out کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر area کی public transport access level کی ایک assessment کی جانی چاہیے کہ وہاں کتنی buses چاہیے ہوتی ہیں ایک certain time میں اور وہ standard maintain رکھنا چاہیے۔ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ rush hour میں public transport routes پر buses کم ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ لوگ cycle use کرتے ہیں اور اس سلسلے میں عرض ہے کہ ان کو encourage کرنا چاہیے just like in Western countries اور bicycle paths جس طرح footpath ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی bicycle paths بھی بنائے چاہئیں۔

اس کے علاوہ یہ ہے کہ pollution control کرنے کے لیے engine maintenance and emission control کو ensure کیا جائے۔ اس کے علاوہ یہاں بات ہوئی کہ یہاں پر وزرا اور member Parliament imported گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ local bus producers or car producers ہیں ان کو tax breaks دینی چاہئیں اور Parliament کو example set by using locally produced cars. چاہیے

اس کے علاوہ alternative fuels بہت successful رہے ہیں پاکستان میں۔ CNG کے معاملے میں پاکستان پوری دنیا میں 3rd or 4th number پر ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں مزید تجربات کرنے چاہئیں۔ Sugarcane سے ethanol بنتی ہے اور vegetable oil سے ہم لوگ bio diesel produce کر کے oil alternative fuel use کر کے ان سے buses چلا کر ہم اپنے foreign reserves بچا سکتے ہیں جو oil کی مد میں خرچ ہوتے ہیں اور اس سے public transport میں بھی اس سے مدد ملے گی۔ شکریہ جناب والا۔

جناب عنصر حسین: شکریہ جناب والا۔ جناب والا! بہت اچھی اور healthy debate ہوئی۔ میں ایک بات یہاں پر add کرنا چاہوں گا کہ بہت اچھی قانون سازی بھی ہوئی چاہیے۔ ہم public sector میں mode of transportation کو جتنا بھی بڑھائیں لیکن جب تک proper regulation نہیں ہوگی، قانون سازی نہیں ہوگی، یہ اتنا effective نہیں ہوگا۔ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں گا کہ کچھ سال پہلے واران بس سروس چلی تھی پنڈی، اسلام آباد روٹ پر اور یہ ایک بہت اچھا قدم تھا لیکن کیونکہ ان کے bus drivers continuously traffic laws violate کرتے تھے جس کی وجہ سے کافی لوگ مرے اور یہ ان کا violation تھا جس کی وجہ سے واران بس ٹرانسپورٹ بند ہوئی۔ لیکن چونکہ واران بس سروس کی سرپرستی سرحد کے محافظ کر رہے تھے اس لیے وہ rule of law سے مستثنیٰ تھے۔ لہذا جناب والا! ایسے قواعد و ضوابط کی بھی ضرورت ہے۔ شکریہ جناب۔

Mr. Speaker: Now, please allow me to put the resolution to the House. "This House is of the opinion that the public transportation mode should be promoted." Now, both the Leaders of the House and the Opposition have changed the word from "promoted" to "improved and encouraged". Whether the House is with it?

(The Motion was carried.)

Mr. Speaker: So, please the Secretariat should note that the word "promoted" is being replaced by "improved and encouraged". Now, I put the Resolution to the House. "The increasing number of cars is heavily contributing to traffic and pollution."

(The Motion was carried.)

Mr. Speaker: The Resolution is carried unanimously. Now, before we adjourn the House, I would like to thank you for allowing me to conduct you all because after the tea break I intend to leave and my flight leaves soon after that and I am very thankful to you. Thank you very much.

(The House was then adjourned for tea break.)

(The House reassembled at 11.45 a.m. after tea break with Madam Deputy Speaker, Khashmala Khan Durrani.)

Madam Deputy Speaker: Now, the next item on the agenda is a report submitted by the Standing Committee on Education, Health and Environment. I would request the concerned Chairman to present it to the Parliament for approval.

Mr. Umair Farrukh Raja: Thank you Madam Speaker.

جناب والا ایہ جو matter میری Standing Committee on Education, Health and Environment کو refer کیا گیا تھا I feel extreme pride to announce کہ میری Standing Committee اس Youth Parliament پہلی Standing Committee ہے جس نے اپنی طرف refer کیے گئے matter کی report بنا کر اس ایوان کے سامنے approval کے لیے پیش کر رہی ہے اور میں اس ایوان کے سامنے اس بات کو mention کرنا چاہوں گا کہ اس رپورٹ کی creation and compilation میں کسی فرد واحد کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ یہ تمام ممبران کی collective and contribution سے collaboration کی گئی ہے اور اس رپورٹ کے اندر ہر ممبر نے برابر contribute کیا ہے اور میں تمام ممبران کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے اس رپورٹ کے لیے وقت نکالا اور کام کیا۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اس ایوان کا اور اس رپورٹ کی چیدہ چیدہ چیزیں اس ایوان کے سامنے رکھوں گا تاکہ اس کے بعد پھر قائد ایوان کی اجازت سے اس پر voting کرائی جائے۔

The title of paper is: ‘The Revival of Student Unions in Pakistan’. This paper consists of eleven sections. Section 1 is regarding the background.

اس میں ہم نے basically یہ pin point کیا ہے کہ the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, freedom of association, formation of society میں کیا کہتا ہے اور اس کی clauses اس بارے میں کیا depict کرتی ہیں۔ جو second section ہے اس میں student union – the basic concept کی طرف آیا گیا ہے۔ اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ awareness regarding student unions provide کی جائے کیونکہ لمحہ فکریہ ہے کہ اکثر جو ہمارے حلقے ہیں ان میں student unions and student political wings کے بیچ میں تفریق نہیں کی جاتی۔ تو ہم نے اس میں کوشش کی ہے کہ ہم لوگ student unions and student political wings or political organizations کے بیچ میں تفریق کریں اور ہم نے اس پر stress کیا کہ students کو اس بارے میں باور کرانا چاہیے کہ student union ہے کیا اور اس کے فرائض کیا ہوتے ہیں، یہ کیا کچھ کر سکتی ہے۔ ایک دفع قیام میں آنے کے بعد یہ students کے لیے یہ کتنی فائدے مند ہے۔ اسی طرح ہم نے mission of the student union میں بھی اس کے goals and objectives define کیے ہیں۔ جو تیسرا سیکشن ہے اس میں campus disciplinary committee کے قیام کی ایک تجویز دی گئی ہے۔ یہ ایک ایسی کمیٹی ہوگی جو campus میں کسی بھی قسم کے disciplinary matters regarding student union, regarding eligibility of office bearers or any misuse of office charges کو hear کرے گی اور اس

کے بارے میں اس کا جو فیصلہ ہوگا that will be the final decision. اس کے جو ممبران ہیں وہ ہماری کمیٹی کی طرف سے اس میں جو ہم لوگوں نے recommendations دی ہیں اس کے لحاظ سے اس میں administrative head of the institution، وہ جو بھی ہوں، چاہے وہ وائس چانسلر ہوں یا پرنسپل ہوں۔ Two members from the media, they must be TV anchors or journalists, they should be nominated through computer balloting. جو تیسرا ممبر ہوگا اس میں وہ faculty or dean, students affairs اور اس کے علاوہ one member each from the ruling as well as the Opposition party of the concerned province. constitution پر ہم نے یہ بات مدنظر رکھی ہے کہ اس کی جو compilation ہے وہ اتنی diverse ہے کہ اگر آپ اس پر influence کرنا چاہیں تو آپ کو تمام aspects کو influence کرنا پڑے گا اور اس لحاظ سے اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ غیر جانبدار اور شفاف طریقے سے زیادہ ممکن ہے۔

اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ایک اور کمیٹی کی بھی recommendation دی ہے جس میں Student Unions Administration Committee کی بات کی گئی ہے جو monthly basis پر ملا کرے گی جس میں چار ممبران student unions کی طرف سے ہوں گے اور چار ممبران administration کی طرف سے ہوں گے اور یہ آپس میں باہمی رضامندی سے جو calendar events ہیں ان کے بارے میں decide کریں گے and regarding all the other issues جو بھی student unions کے دائرے میں آئے گا۔

اس کے بعد ہم structure of the student unions کی طرف آتے ہیں جس میں general students body ہے which will comprise of all the regular/full time students of the institute. اس کے علاوہ ایک executive council بنائی گئی ہے جس کے ممبران صدر، نائب صدر، جنرل سیکرٹری، treasurer and faculty presidents of all committee chairpersons ہوں گے and the committee chairpersons will be nominated by the President himself upon election. اس کے علاوہ جو functional arms of the student union regarding all the committees media، environmental affairs committee، academic affairs committee، public، students relations، sports، accounting and affairs committee، auditing committee ہے، اس کی بھی تشکیل کی ہم نے recommendation بھیجی ہے۔ یہ بات یہاں پر آپ نوٹ کر لیں کہ structure of the Student Unions proportionately can be dependent upon the needs, for example, size, number of campuses, etc, of a particular institution. اس رپورٹ میں جو بات کردی گئی ہے وہ حرف آخر نہیں ہے۔ آپ اپنی ضروریات کے مطابق اس کو تبدیل کر سکتے ہیں اور اس کی adaptability ممکن ہے۔

اس کے علاوہ ہم نے section 5 میں gender based quota for student union office کے بارے میں ذکر کیا ہے جس میں ہم نے اس بات پر stress کیا ہے کہ female students کے لیے کم از کم one third quota of the seats should be reserved. اس کے بعد سب سے جو main element ہے وہ elections of the student unions ہے، اس کا ایک لائحہ عمل ہے۔ اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے ایک election committee کی تشکیل کی تجویز دی ہے۔ Campus Disciplinary Committee will hold the elections under its supervision ensuring the process to be fair and transparent. election کو تھوڑا سا define کرنے کی کوشش کی ہے کہ elections کس طرح سے ہوں گے، کن کن posts پر ہوں گے، اور کن کن قواعد ضوابط کے مطابق ہوں گے۔

اس کے بعد ہم نے پھر qualification of candidates پر بات کی ہے تاکہ جو worthy candidates ہیں وہ اس post کے کھڑے ہو سکیں اور elect ہوں، آفس میں آئیں اور serve کریں۔ اس کے لیے ہم نے ایک certain criterion رکھا ہے کہ all the candidates should be required to maintain an above average GPA or average marks percentage and that has to be determined by the campus disciplinary committee کیونکہ different walks of life، different faculties، different marking میں institutions کا criterion different ہوتا ہے اس لیے اسی لحاظ اس کو مدنظر رکھ کر اس میں بھی ہم نے لچک پیدا کی ہے۔ اس میں ہم نے candidates کے لیے یہ بھی ضروری رکھا ہے کہ affiliation with any political party or any political

organization would render their candidate ineligible to contest the elections student تاکہ وہ negative political elements, non-democratic elements اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اور جو section add میں اس کے election campaign influence of money and how to counter it. میں ہر candidate پر binding کر دی ہے کہ وہ پانچ ہزار روپے سے زیادہ کا خرچہ نہیں کر سکتا اپنی campaign پر اور اس سلسلے میں candidate کو ایک audit report campus disciplinary committee کو بھجوانی پڑے گی۔ جس میں اگر کسی بھی بے ضابطگی کا انکشاف ہوتا ہے تو وہ candidate automatically disqualify ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم نے تمام rallies کو prohibit کر دیا ہے، in the campus and any printed material, pamphlets or any brochure etc., first they have to be approved by the campus disciplinary committee before distribution. اس کے علاوہ ہم نے اس میں تین، چار اور بھی recommendations دی ہیں جو اس paper میں شامل ہیں۔

اس میں section 7 جو ہے، that is campus violence and how to avoid it. Campus violence student union history اس میں بڑے violent incidents بھی ہو چکے ہیں۔ ان کو counter act کرنے کے لیے ہم نے اس میں اپنی 9 سفارشات لکھی ہیں، جن کو follow کر کے ہمیں یقین ہے کہ campus violence کو کافی حد تک کم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم نے tackling sectarian and ethnic trends کی طرف بھی توجہ دی ہے کہ کوئی بھی student group اپنے آپ کو کسی بھی طرح کا ethnic or sectarian group کے طور پر identify نہیں کرے گا اور لسانی یا نسلی بنیادوں پر فسادات کی بھی اس میں کافی حد تک کمی ہوگی۔

اس کے علاوہ section 9 میں ہم نے facilities for student unions میں بات کی جس کے لیے ہم نے personal benefits اور اس کمیٹی میں unanimous decision یہ ہوا تھا کہ جتنے بھی office bearers ہوں وہ volunteer basis پر کام کریں گے اور ان کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی مراعت نہیں دی جائیں گی تاکہ شروع سے ہی ان کو جذبہ خدمت کے تحت کام کرنے کا موقع ملے نہ کہ ایک ایسا culture ان کو ملے جس سے یہ شروع میں ہی corrupt ہو جائیں۔ Student Union Office کے بارے میں ہے کہ proper office space should be provided to the student unions and if they need any paid personnel or any office secretary, that has to be approved by campus disciplinary committee and then they should be given that. budget of the student unions میں اس سلسلے میں funds تین جگہوں سے generate ہو سکتے ہیں۔ ایک تو contribution from the institution itself from the student contribution and if from donation and other sources which shall be fully documented and brought into the notice of the student union admin committee and the campus disciplinary committee. اس میں ہم نے ایک شق یہ شامل کی ہے کہ کوئی بھی fund یا کوئی بھی donation آپ individual سے نہیں لے سکتے۔ آپ institution سے لے سکتے ہیں، آپ multinational companies سے sponsorship لے سکتے ہیں لیکن کسی individual سے نہیں لے سکتے تاکہ individual influence جو ہوگا اس کو counter act کیا جائے۔ اس کے علاوہ all the financial accounts must be cleared balanced and should be submitted within fourteen days from the assumption of office of the new president by the outgoing treasurer.

اس میں جو آخری سیکشن ہے وہ ہے section 11 that is concerned with the code of conduct اور اس میں ہم نے کچھ قواعد مرتب کیے ہیں۔ اگر آپ یہ apply کر سکتے ہیں تو بہت شفاف اور بہت اچھے طریقے سے یہ نظام آگے بڑھے گا۔ اس کے علاوہ پھر ہم نے closing note میں یہ بات mention کی ہے کہ اس میں کئی حلقے ہیں جو کہتے ہیں کہ student unions کو بحال کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے اور میں سب سے زیادہ مشکل کام یہ ہے کہ آپ شروع کہاں سے کریں گے لیکن آپ معاشرے میں reforms لانا چاہتے ہیں تو you have to start from somewhere. اس میں ہم لوگوں نے recommendation یہ دی ہے کہ there should be a student union revival cell, working directly under the Ministry of Education اور اس کو ہم نے 3 phases میں

In the first phase, a strategically designed awareness campaign divide should be launched in which students in public as well as private sector universities are educated about the true concept of student union. In the second phase, which are relatively select universities کو آپ کچھ ایسی select کریں گے، progress اور جن کی safe and free from political influence اگر ان پر pilot basis پر یہ policy رائج کی جائے اور اس کے بعد جب آپ اس کو implement کریں گے تو تب آپ کو پتا لگے گا کہ اس کی practicality کتنی ہے، اس میں کتنے flaws ہیں، اس کی اچھائیاں کیا ہیں اور ان کو مدنظر رکھتے ہوئے پھر 3rd phase میں آپ اس میں recommendations کر کے، اس میں amendments کر کے اور پھر یہ یقیناً بہتر سے بہتر ہو سکے گا۔

آخر میں میں اس ایوان سے یہی درخواست کروں گا with the permission of the Leader of the House کہ اس پالیسی کو ایوان کے سامنے voting کے لیے رکھا جائے۔

Mr. Ansar Hussain: On a point of order Madam Speaker.

میڈم ڈپٹی سپیکر: جی بولیے۔

جناب عنصر حسین: میڈم سپیکر یہ بہت اچھی رپورٹ تیار کی ہے - It is highly commendable لیکن اس میں ایک چیز ہے جس کو میں point out کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے non-political student union کی بات کی۔ میڈم سپیکر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں دو منٹ اس پر بات کر لوں۔

سب سے پہلے تو حکومت کے اس اقدام کو میں خوش آئند سمجھتا ہوں کہ حریت فکر اور جمہوریت کے فروغ کے لیے student unions پر سے پابندی اٹھا لی گئی ہے اور یقیناً حکومت کو اب ایسے اقدامات کرنے چاہئیں جن سے طلبہ میں mobilization and political training ہو۔ حیرت ہے کہ ہم نوجوان خود ایسی مضحکہ خیز demands کر رہے ہیں کہ student unions non-political ہوں یعنی ان کی کوئی political affiliation نہ ہو۔ ہم لوگ رونا تو اس بات کا روتے ہیں کہ نئی سیاسی قیادت سامنے نہیں آ رہی ہے اور نئے حکمران نہیں آ رہے ہیں اور حمزہ شریف، مونس الہی اور بلاول بھٹو ہی ہمارے حکمران ہوں گے اور اب جب موقع مل رہا ہے ہمیں کہ طلباء کی political training ہو تو ہم غیر سیاسی student unions کی طرف آ رہے ہیں۔ The biggest draw back of politics is that people inferior to us.....

Madam Deputy Speaker: Ansar sahib, your time is over. Please sit down. We will now put this report for approval to the House. The Standing committee on Education, Health and Environment presents its report on the matter referred to it, titled 'The Revival of Student Unions in Pakistan' to the Youth Parliament for approval.

(The Motion was carried.)

Madam Deputy Speaker: Report stands presented. Next item on the agenda is a Motion which is being moved by Mr. Amir Ejaz, Mr. Nishat Kazmi and Mr. Umair Zafar Malik. Please move the Motion.

Mr. Nishat Kazmi: Thank you Madam Speaker. This House may discuss the recent cancellation of the official tour of the Indian Cricket Team to Pakistan and subsequent cancellation of the official tours to India by the Hockey and Squash Federations of Pakistan and also recommendations regarding the future of Pakistani players playing in the Indian Cricket League. میڈم سپیکر صاحبہ، ہم جانتے ہیں کہ 26 نومبر سے لے کر آج تک پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات ایک اچھے level سے ایک انتہائی نیچے level پر آچکے ہیں۔ جب جنگ کا خطرہ دونوں ممالک کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ ہم یہ expect کر رہے تھے in the last two weeks کہ شاید surgical strikes ہندوستان سے پاکستان پر کی جائے۔ 26 نومبر کے واقعات نے سارے کے سارے peace process roll back کر دیا ہے اور دونوں ممالک

کے درمیان 2001-2002 situation کی tension سے کم نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ محترمہ سپیکر صاحبہ! یہاں یہ حالات پیدا ہوئے کہ ہندوستان کے وزیراعظم اور ان کے وزیر کھیل نے پاکستان کے بارے میں بہت ہی متنازعہ بیانات اور الزام تراشی کا سلسلہ شروع کیا۔ افسوس دیکھیے کہ ہمارے پاکستانی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین اعجاز بٹ صاحب ہندوستان تشریف لے کر جاتے ہیں اور وہاں جاکر ان کی کرکٹ ٹیم کو پاکستان کے دورے کی درخواست کرتے ہیں۔ مجھے یہ کہنے دیجیے اس ہاؤس کے توسط سے کہ پاکستانیوں کو اپنی dignity زیادہ عزیز ہے، کرکٹ کا میچ زیادہ عزیز نہیں ہے۔ ہم desperate نہیں ہیں ہندوستان کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کے لیے۔ ہم desperate نہیں ہیں ہندوستان کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کی games کھیلنے کے لیے جب ہماری dignity داؤ پر لگ رہی ہو۔ میں اس ہاؤس سے اپیل کرتا ہوں کہ اس act کو condemn کیا جائے اور اعجاز بٹ صاحب سے دریافت کیا جائے کہ وہ کیوں لوگوں کی رائے کے برخلاف ہندوستان تشریف لے گئے۔

نمبر دو، میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا پاکستانی سکواش اور ہاکی فیڈریشن کے سربراہان کو بالخصوص جو ہاکی فیڈریشن کے جو سربراہ ہیں جنہوں نے ایک بہت ہی bold decision لیا اور انہوں نے ایک counter act اور انہوں نے کہا کہ پاکستان بھی اپنی ٹیم بھارت میں کھیلنے کے لیے نہیں بھیجے گا۔ یہ بہت اچھی بات ہے، جب تک دونوں حکومتیں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں کو حل نہیں کرتی میرا خیال ہے پاکستان کے عوام بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم اپنی dignity پر compromise کر کے ہندوستان کے ساتھ کرکٹ کھیلیں۔ ہم لوگ desperate نہیں ہیں اور کوئی illogical urgency نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ Indian Cricket League میرے باقی ساتھی مجھ سے زیادہ knowledge رکھتے ہیں اور وہ اس پر زیادہ بات کریں گے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔

Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Allah Ditta Tahir sahib.

جناب اللہ دتہ طاہر: شکریہ محترمہ سپیکر صاحبہ۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ کھیل کا اور ممالک کے درمیان تعلقات کا آپس میں کوئی خاص relation نہیں ہے لیکن according to the need of time it is a very good Motion. تعلقات سے یہ definitely affect ہوا ہے اور اس میں politics involve اور دوسری بات یہ ہے کہ Cricket is the most prevailing source of entertainment in all over the world اور جس سے نہ صرف کرکٹ بلکہ دوسرے کھیلوں کی ٹیمیں بھی اگر دوسرے ممالک کا دورہ کرتی ہیں تو اس میں face to face interaction بڑھتا ہے اور کرکٹ کو ہم ان ممالک کے یا ان ریاستوں کے مابین تعلقات بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ No doubt the cricket has promoted peace. وہ پوری دنیا میں بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے جس سے نہ صرف economy strong ہوتی ہے بلکہ تعلقات بھی بہتر ہوتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جو current situation ہے اس میں ہم جتنے بھی benefits دیکھیں ہیں اور انڈیا نے جو cancel کیا ہے اس سے جو face to face interaction بڑھ رہا تھا اور جو economic betterment ہو رہی تھیں ان ساری چیزوں کو انہوں نے ایک طرف رکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے اور ہم اس کی پرزور مزمت کرتے ہیں لیکن دوسری بات یہ ہے محترمہ سپیکر صاحبہ کہ جہاں بات آتی ہے سیکورٹی کی کہ انڈیا تو پہلے ہی ہمارے خلاف بہانے ڈھونڈ رہا ہے اور ان کے اپنے ہی ملک میں دھماکہ ہوا تو انہوں نے ہم پر الزام لگا دیا ہے لیکن اگر فرض کریں انڈیا کی ٹیم یہاں آتی ہے اور ہماری پاکستانی سیکورٹی تو ان کو full protocol دیتی ہے لیکن اگر کوئی شر پسند عناصر کوئی ایسا کام کر دیتا ہے، آپ دیکھیں کہ اگر تھوڑی سی سڑک بھی block ہوتی ہے تو پاکستان میں لوگ اندر ہی اندر دل میں کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ابھی کوئی نہ کوئی دھماکہ ہوگا اور according to the current situation اگر انہوں نے یہ cancel کیا ہے تو ٹھیک ہے ہم بھی according to the prevailing situation اپنے جو youngsters ہیں ان کو recommend نہیں کریں گے کہ وہ Indian Cricket League میں جا کر کھیلیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب حالات بہتر ہوں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ انڈیا کی طرف سے تعاون میں بہتری ہوگی اور ہم بھی اسی طرح اپنے کھلاڑیوں کو بھیجیں گے۔ شکریہ۔

Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Umair Zafar Malik.

Mr. Umair Zafar Malik: Thank you madam Speaker. *Bismillah-ir-Rehman-ir-Raheem*. First of all I will be talking about the cancellation of tours that the PCB has seen this year. Pakistan Cricket Team which is ranked fifth in the ICC test ranking at the start of the year, did not play a single test match throughout the year. They only played 21 ODIs, 13 of which were against minnows, that is, Bangladesh, Zimbabwe and Hong Kong. So, through this our cricket is definitely suffering. The ICC Champions Trophy which was supposed to be held in Pakistan was cancelled on the pretext of a volatile security situation. This though does not in any way linked to the cancellation of tour by the Indian Cricket Team because the security situation post Mumbai attacks is not deteriorated in Pakistan and the Indian Cricket Team was willing to come to Pakistan to play test and ODI series before the Mumbai incident took place. So, that we condemn because politics and cricket should not be merged to the loss of cricket. Then about our sponsors, the cancellations by the Hockey and Squash Federations are indeed, we support them and that is why we brought the point of the ICL prayers to be allowed to play for the National team. To give a brief background of the situation in IPL and ICL scenario I would like to mention before the House that the ICL is the rebel league and the BCCI (Board of Control for Cricket in India) which is the most powerful board probably in the world, has pressurized the Cricket boards world over to ban the players who are playing in the national teams who have joined the ICL. In this way they have been trying to crush the ICL right from the beginning. The strong response that should go from the Pakistani side of the boarder should be to lift the ban on the players playing in the ICL to make sure that an equal loss is suffered by the BCCI and the Indian Government. On principle, there are three reasons why the players were playing in the ICL should not be banned. First of all is that they only generate revenues, the foreign exchange reserves, which come into Pakistan, so there is no point in banning them from playing there and the second is that it would create competition for every single squad in a side and definitely cricket would benefit from that. We have players like Yousaf, Imran Nazir, Abdul Razzaq and Saqlain Mushtaq playing in the ICL who have years of cricket left in them and banning them from playing in the national team is blatantly unfair. The last reason is that this would definitely send a strong message to the BCCI and the Indian Government. So, we on behalf of the Youth Parliament request the Government to lift the ban on the ICL players. Thank you.

Madam Deputy Speaker: I would request all the honourable members to please take care of the time limit. Each member would get three minutes to speak. Honourable Syed Mohsin Raza.

Syed Mohsin Raza: Thank you Madam Speaker. Looking at the Motion I feel that history is repeating itself. The Green Party has presented a very good Motion however, it could have been presented in 2005 when the India Parliament was strong, it could have been presented in 1999 in the aftermath of Kargil incident. It may have been presented in the early 90s, when the Kashmiri Liberation Movement turned dramatically violent. It may have also been presented in the early 80s, when India forcibly occupied a large portion of the Siachin glacier. I do not wish to burden you with the

excessive examples but our history is replete with such examples where the first ceremonial sacrifice at the altar of war mongering and jingoism is cricket. It is quite clear that we have learnt nothing from history as we have gone down this road off cricket boy cot several times before as well, Madam Speaker, in our history.

The recent cancellation of the Indian cricket team's tour to Pakistan is part of a strategy of the Indian Government of building pressure on Pakistan and isolating Pakistan internationally. Madam Speaker the need of the hour is that we should abandon an Indian specific reactionary approach and adopt an independent strategy not just for our cricket but also for our foreign policy and Pakistan Cricket Board should make a schedule that is not tilted heavily towards India for its financial support or for its financial funds rather it should focus more on other cricket playing nations which are quite a few in the world.

Regarding the second part of the Motion, جب early 70s میں کیری پیکر نے one day cricket کا آغاز کیا تو اس وقت بھی تنقید نگاروں نے اس پر بہت تنقید کی۔ لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ one day cricket ہی سب سے زیادہ کھیلا جانے والا cricket ہے and test matches are very much now peripheral of the main one day game. So, I believe that Cricket Leagues are here to stay and the sooner we adopt these leagues it would be better and I would suggest that since Pakistanis are no less entrepreneurial than the Indians, we should immediately take steps to make a Pakistani Cricket League.

تاکہ اینٹھ کا جواب پتھر سے دیا جاسکے so that Pakistani players do not have to go towards India to play rather they could play in Pakistan.

Madam Deputy Speaker: Mohsin sahib your time is over.

Syed Mohsin Raza: Thank you very much Madam Speaker.

Madam Deputy Speaker: Honourable Raheel Sher Khan.

جناب راحیل شیر خان: شکریہ محترمہ سپیکر! ابھی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ پاکستان ہاکی ٹیم انڈیا کیوں نہیں جا رہی۔ میں تھوڑا سا history میں جانا چاہوں گا اور یہ جو واقعہ 26 نومبر سے پہلے کا ہے۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ کھیل اور سیاست کو ایک دوسرے میں intermingle نہ کیا جائے لیکن میرے خیال میں جو پاکستان اور انڈیا کا جو تعلق ہے اس میں آپ کی اور ان کی heat پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے اور میرے خیال میں آگے بھی رہے گی کیونکہ اور ہمارا اور ان کا relation ہی ایسا ہے ایک difference ہی ایسا ہے۔ میں یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ جب قاسم ضیا صاحب نے ہاکی فیڈریشن کا چارج سنبھالا تھا تو انہوں نے سب سے پہلی series ہی انڈیا کے ساتھ رکھی تھی کہ ہم اپنی ہاکی کی سیریز انڈیا کے ساتھ رکھیں گے اور انڈیا نے agree کیا تھا۔ اب یہاں پر انڈیا کی لاپرواہی کا اندازہ کیجیئے کہ یہاں پر ہمارا delegation واپگہ بارڈر پر استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے اور انڈیا سے اس وقت پیغام آ رہا ہے کہ پاکستان میں security threats کی وجہ سے ہم اپنی ٹیم کو پاکستان میں نہیں بھیج سکتے۔ یہ میچ ہم نہیں کراسکتے۔ پاکستان کو اس کی وجہ سے کیونکہ چوبیس گھنٹے کے بعد پہلا میچ ہونا تھا اور ساری advance ticketing ہو چکی تھی، پاکستان کو اپنے سینئر اور جونیئر کھلاڑیوں کے درمیان ایک میچ کرانا پڑا۔ جناب والا! یہ 26 نومبر کے واقعے سے پہلے بھی چل رہی ہے۔ اس کے counter attack میں پاکستان نے پھر اپنی ٹیم کو پھر انڈیا بھیجنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ اگر نہیں کھیلا چاہ رہے تو ہمیں بھی کوئی اتنا شوق نہیں ہے کہ ہم ان سے کھیلا چاہیں گے۔

دوسری بات جو کرکٹ لیگ کی ہے، یہاں پر میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ میں کیری پیکر 1980 میں ایک چینل کے مالک تھے انہوں نے ایک اسی طرح کی لیگ کا آغاز کرنا چاہا تھا اور Australian Board نے ان سے کہا تھا کہ آپ یہ نہیں کراسکتے۔ اس پر کافی ban لگائے گئے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی کافی زیادہ خوبیاں one day میں adopt کر لی

گئیں جس میں ایک آپ کی coloured uniform ہے اس کے بعد ایک white ball ہے۔ اس کے بعد جو flood light and night matches ہیں وہ بھی اس میں adopt کئے گئے۔ جہاں تک انڈین کرکٹ لیگ ہے اس میں definitely Pakistani players پر سے ban اٹھا لینا چاہیے اس کا ایک reason تو یہ ہے کہ انڈین کرکٹ لیگ جو اس کے ساتھ agreement ہے اس میں یہ written ہے کہ اگر کوئی کھلاڑی ہے اس کی اپنی نیشنل ٹیم کا میچ ہو رہا ہے تو وہ کرکٹ لیگ کو چھوڑ کر for the time being اپنی ٹیم کے لیے انٹرنیشنل میچ کھیل سکتا ہے۔ ایک اور بات کہ جو ہمارے کرکٹ کے کھلاڑی یا کسی بھی sport کے کھلاڑی ہیں ان کا ذریعہ معاش ہی sports ہے۔ کیونکہ وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے اور جو کھلاڑی کی playing age ہوتی ہے وہ 35 to 40 ہوتی ہے تو اگر وہ county میں جا کر کھیل سکتے ہیں جس طرح کہ سکاٹ لینڈ ویرا میں، جب وہ اس county میں کھیل سکتے ہیں کیوں وہ انڈین کرکٹ لیگ میں نہیں کھیل سکتے۔ شکریہ۔
جناب احمد نور: پوائنٹ آف آرڈر۔

Madam Deputy Speaker: Ahmed Noor Sahib we are running out of time please. Honorable Rahim Bukhsh Khetran.

جناب رحیم بخش کھتران: میڈم سپیکر میں نے کچھ اس طرح کی demand تو نہیں کہ میں اس پر کچھ کہوں گا لیکن اب آپ نے موقع دے ہی دیا ہے تو۔

محترمہ ٹپٹی سپیکر: جناب یہ آپ کی discretion پر ہے if you want to speak or not.

جناب رحیم بخش کھتران: میں کہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم انڈیا کے سامنے بھیک مانگیں، یا آسٹریلیا کے سامنے بھیک مانگیں کہ خدا لیے ہمارے ملک آئیں اور کرکٹ کھیلیں۔ ہمارے اندر کی جو سیکورٹی ہے سب سے پہلے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ ان کا اس طرح tours cancel ہمارے منہ پر ایک طمانچہ ہے۔ ہماری سیکورٹی ایجنسیوں کی ناکامی ہے۔ ہماری جو foreign or internal policies ہیں ان کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آج تک ہم نے اپنے ملک میں کیا کیا۔ ہم نے اپنے ملک کے ہر کونے میں، ہر صوبے میں آگ لگا رکھی ہے۔ جب تک ہم وہ آگ نہیں بجھائیں گے international community ہم پر کبھی بھی trust نہیں کرے گی۔ جناب والا! اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا وقار international community میں بڑھائیں، ہم چاہتے ہیں کہ investors ہمارے ملک میں آئیں، کرکٹرز آئیں باقی جو کھیل ہیں اگر وہ لوگ آئیں اور سکون سے کھیل کر چلے جائیں تو ہمیں اپنی سیکورٹی کو بہتر بنانا ہوگا۔ شکریہ۔

Madam Deputy Speaker: Honorable Aurangzeb Marri.

جناب اورنگزیب مری: بہت بہت شکریہ جناب سپیکر صاحبہ۔ first of all I would like to thank member of the ruling party for appreciating our motion کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر اس زمانے میں ہمیں سیاست کا زیادہ پتا ہوتا، اگر یوتھ پارلیمنٹ ہوتی تو اس زمانے میں بھی ضرور دیتے، لیکن ہم ابھی بیٹھے ہیں اور ہمیں جو platform ملا تو اسی لیے ہم نے اس کو ابھی پیش کیا۔ جناب سپیکر صاحبہ! It is not about بھیک مانگنے کی بات نہیں ہے، کسی کو convince کرنے کی بات نہیں ہے کرکٹ کھیلنے کے لیے it is not about going to a country and asking them to come and play cricket for us. It is about our honour, our dignity, our revenue. 25 million dollars کا loss ہوا ہے اس series کی cancellation پر اور ابھی جو سری لنکا آرہا ہے ہمیں دقت ہو رہی ہے کہ ہم ان کو 1.5 million dollars دینے کے لیے دقت ہو رہی ہے اور 1.5 million dollar ہمارے پاس کم پڑ رہے ہیں۔ just because of this massive loss. اگر آپ پوری چیز کو دیکھیں تو ہمارے ملک میں کوئی کرکٹ کھیلنا نہیں چاہ رہا۔ What we have to do is, we have to convince everybody that Pakistan is not a terrorist state. Pakistan is a victim of terrorism. It is not a terrorist state. اگلے دن انڈیا کھیلنے کیوں گیا؟ کیونکہ انڈیا نے ان کو یہ convince کیا کہ انڈیا terrorist state ہے انڈیا میں terrorist act ہوا ہے۔ It is a victim of terrorism. We also have to convince everyone that we are a victim of terrorism

realize ہے، نقصان ہمارے کو ہے۔ سری لنکا ہمارے پاس کھیلنے کے لیے کیوں آیا، کیونکہ وہ victim کرتا ہے ان کو بھی پتا ہے ان کے ہاں بھی جو رہا ہے تامل ٹانگزر کر رہے ہیں وہ ایک it understands what way Pakistan is coming ہے terrorism state نہیں ہے from. تو جناب سپیکر! ہمیں اپنا image صحیح کرنا ہے۔ ہمیں اپنا perception دیکھانا ہے کہ ہم کرکٹ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ کیا ہماری کرکٹ کے لیے importance ہے کیونکہ cricket I am sure کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا چلیں ٹیسٹ میچ enjoy نہیں کرتا ہوگا، one day Cricket has been international enjoy کرنا ہوگا لیکن twenty 20 enjoy کرتا ہوگا۔ Cricket is one of the most commonly played sports in Pakistan. We were world champion one time that is not a joke. We were world champion. incident ہوا۔ پاکستان میں کبھی کوئی incident نہیں ہوا، کہ کسی کرکٹ کی ٹیم کو نقصان پہنچا ہو۔ Ontario میں incident ہوا تھا جب سری لنکا کی ٹیم پر attack ہوا تھا ان پر پتھراؤ ہوا تھا۔ ان کو بیچ میں روکا گیا تھا۔ پھر بھی کینیڈا کو natural venues کے لیے consider کیا جاتا ہے کیوں؟ کیوں consider کیا جاتا ہے۔ انہوں نے لوگوں کے دماغوں میں perception ڈالا ہوا ہے۔ کافی حیرات کی بات ہے کہ اس پورے incident میں کسی نے یہ mention کیا کہ ہم نے ایشیا کا سب سے بڑا کپ پاکستان میں کروایا تھا without any difficulty ایشیا کپ پاکستان میں ہوا تھا۔ ایشیا کپ میں کوئی problem نہیں ہوئی تھی۔ I just want to say کہ ہمیں اس طرح کی کوئی کمیٹی بنانی چاہیے جو ہمارے image کو portray کرے بھلے باہر جائیں، باہر جا کر بتائیں، بھیک مانگنے کی بات نہیں ہے ہمارے image کو portray کرنے کی بات ہے because at the end of the day we are the one who suffers the losses and consequences. Thank you.

Mr. Abdullah Zaidi: Point of order.

Madam Deputy Speaker: Abdullah Zaidi sahib. Let us wind up the members who want to speak if we get time then we will give you a chance to speak, you and Mr. Ahmed Noor. Honorable Waqas Aslam Rana.

جناب وقاص اسلم رانا: شکر یہ میڈم سپیکر۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ sub-Continent میں جہاں پر کرکٹ ہماری سوسائٹی کا اہم حصہ ہے۔ اس کو دونوں ملکوں کی حکومتیں سیاست میں ملوث کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ یہاں پر میں پاکستان کے دفاع میں یہ ضرور point out کرنا چاہوں گا کہ internationally اور انڈیا میں خاص طور پر پاکستان کی طرف ایک منافقت کی strategy ہے۔ Australian and Indian tours despite the fact اتنے بڑے terrorist acts ہوئے۔ جب Australian team کچھ عرصہ پہلے آئی تھی تب بھی انڈیا کے ایک شہر میں دہماکے ہوئے لیکن انہوں نے programme cancel نہیں کیا۔ بمبئی اتنے بڑے حادثے کے بعد جس کو پوری دنیا نے condemn کیا اور اس کی وجہ سے پاکستان کو pressurize کیا۔ ایک ہفتے بعد انگلستان کی ٹیم واپس ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے آجاتی ہے۔ میڈم سپیکر! اس کی صرف ایک وجہ پیسہ ہے۔ Indian Cricket Board monetarily اتنا powerful ہو چکا ہے کہ کوئی اور کرکٹ بورڈ اس کو offend کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک تو یہ پاکستان کے خلاف منافقانہ رجحان ہے لیکن ہمیں internally بھی اپنے آپ کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہماری حکومت کے level پر بھی اور PCB کے level پر اور Foreign Affairs کے level پر بھی flawed policies ہیں جس کی وجہ سے یہ results سامنے آرہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کو بلاوجہ pressurize کیا جاتا ہے اور ایک ایسی approach adopt کی جا رہی جہاں پر ہماری cricket suffer رہی ہے لیکن اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں۔ پاکستان میں ایک insurgency کا problem ہے۔ اس سلسلہ میں، میں جنوبی افریقہ کی مثال دینا چاہوں کہ بہت عرصے تک جنوبی افریقہ کی کرکٹ کا internationally boycott کیا گیا کیونکہ وہاں پر ایک ایسی political regime تھی جو abhorrent تھی اور جو انسانی حقوق کے خلاف تھی اور تباہی جنوبی افریقہ کے کرکٹ relations پوری دنیا کے ساتھ normalize ہوئے جب انہوں نے اپنی بنیادی پالیسیاں بھی تبدیل کیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور اس کو ہم condemn کرتے ہیں اور ایک point ہے جہاں پر ہمیں آکر اپنا جو apologetic stance رہا ہے حکومت کا اور PCB کا اس کو تبدیل کرنا چاہیے اور وہ ہوا ہے اور وہ ٹھیک

ہوا ہے لیکن at the same time constructive بات یہ بھی ہے کہ ہماری حکومت کو بھی اور as a society ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ جو مسائل ہیں، پاکستان تو ساٹھ سال سے کرکٹ کھیل رہا ہے کیوں آج ہی دنیا کی کوئی ٹیم پاکستان آنا نہیں چاہتی۔ دونوں points کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے اور پھر کوئی strategy adopt کرنی چاہیے۔ شکر یہ۔

میڈیم ڈپٹی سپیکر: معزز فرخ جدون۔

جناب فرخ جدون: بہت شکر یہ محترمہ سپیکر! میرا نام اس میں چلا گیا ہے میں صرف ایک شعر اقبال کا کہنا چاہوں گا۔ شاید یہ ایوان اقتدار کے لیے کہا گیا ہے۔

تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے

خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر

چونکہ مجھے اور میرے بہت سے ساتھیوں کو جو کہ میرے خیالات کی ترجمانی کر رہے تھے، عورتوں کے حقوق کی بارے میں نہیں بولنے دیا گیا تو میں as a debate سے abstain کرتا ہوں۔ شکر یہ۔

محترمہ ڈپٹی سپیکر: محترم وقاص علی کوثر۔

جناب وقاص علی کوثر: شکر یہ میڈم سپیکر۔ میڈم سپیکر! کھیلوں کے ناطے دوستی کے رشتے تو سنا تھا لیکن کھیلوں کے ناطے دھمکیوں کا سلسلہ black mailing کا سلسلہ کبھی نہیں سنا۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ وہی سب سے بڑی جمہوریت ہے جس میں پاکستان کے فنکاروں کو نکالا گیا۔ کیا ان کی زبان سے بندوق کی گولیاں نکلتی تھیں۔ پاکستان کے کرکٹروں کو نکالا گیا اور یہی وہی سب سے بڑی جمہوریت ہے جس میں بال ٹھاکرے نامی شخص نے ممبئی کے اندر کرکٹ کی pitch کھود ڈالی تھی جو آج تک کرکٹ کی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔

جناب سپیکر! میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انہیں basic route cause کی طرف آتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاخ نازک پر جو آشیانہ بنے گا، ناپائیدار رہے گا، ناپائیدار رہے گا۔

کرکٹ کی گولی اور کشمیر میں بندوق کی گولی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی۔ آپ کو انڈیا کے ساتھ بنیادی مسائل حل کرنے ہونگے۔ جہاں تک ICL کی بات ہے میں اس ہاؤس کی جانب سے یہ پرزور اپیل کرتا ہوں کہ محمد یوسف کو ایک دفعہ پھر پاکستانی کرکٹ ٹیم میں شامل کیا جائے۔ یہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے اپیل ہے۔ شکر یہ۔

میڈیم ڈپٹی سپیکر: جناب احمد جاوید۔

جناب احمد جاوید: شکر یہ محترمہ سپیکر۔ محترمہ سپیکر! ہمارے سامنے دو major issues ہیں ایک تو tours کی cancellation ہے۔ اس میں بات یہ ہے کہ یہ صرف انڈین کرکٹ ٹیم کے tour کی cancellation کی بات نہیں ہے، یہ ایک general cancellations کا trend ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیمیں پاکستان نہیں آرہیں۔ یہاں پر سب سے اہم رول سب سے زیادہ International Cricket Council کا ہونا چاہیے کہ جب انہوں نے ایک future tour programme بنایا ہے جس کی دس سال کی معیاد ہے اور اس میں ہر ٹیم نے چار series کھیلنے کے دوسرے ملک کے خلاف اور اگر کوئی ٹیم اپنی ان commitments کو honour نہیں کر رہی تو ICC کے end پر ایک action ہونا چاہیے to either honour your commitment or to pay penalties to ensure that the affected cricket board is able to survive. Pakistan Cricket Board کا اس وقت یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ اس حد تک دیکھا ہے کہ ٹیم neutral venues پر پاکستان کے خلاف کھیلنے سے انکار کر رہی ہیں اگر اس حد تک commitments honour کرنے سے ایک refusal ہے تو پھر اس پر obviously penalties should be imposed. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک انڈیا اور پاکستان کے tour کی بات ہے تو ہم دیکھا کہ یہ اکثر ہوتا رہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ ties have been suspended because of political reasons. It is high time ایک initiative ہونا چاہیے to have a policy for this sort of thing. ایک dialogue process ہونا چاہیے جس کے بعد یہ ensure کیا جائے کہ آپ کی politics or sports are either kept separated or there is a clear mandate that this is how things are going to proceed. ICL کی بات ہے تو میرا خیال ہے ICL کے اندر بہت سے issue raise کئے گئے ہیں اس ایوان میں تو نہیں لیکن generally these are

ہمارے سامنے انگلستان اور سری لنکا کی مثالیں ہیں جنہوں نے county cricket allow against the basic right of cricketers to choose where they want to play ان کھلاڑیوں کو جو ICL کھیل رہے ہیں اور ہم تو وہ کرکٹ ٹیم ہے جو سب سے زیادہ ICL کی وجہ سے effect ہوئی ہے۔ ہمارے تو actual, current players اس کے اندر کھیل رہے ہیں اور star players کھیل رہے ہیں۔ پاکستان بورڈ کو جب انڈین بورڈ یہاں visit بھی نہیں کرنا چاہ رہا تو ہم کیوں ان کی پالیسی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہمیں اس سے آزاد ہو کر اپنے interest کے لیے اپنے cricketers کو واپس international fold میں accept کرنا چاہیے۔ شکر یہ محترمہ سپیکر۔

Mr Speaker: Honorable Waqar Nayar.

جناب وقار نیر: شکر یہ جناب سپیکر! کافی productive debate اس Motion پر ہو چکی ہے۔ کچھ چیزوں کو re-highlight کرنا چاہوں گا۔ پہلے تو یہ کہ ایک تو ہمارا جو chronic issue terrorism کا ہے اس کے root causes کو address کرنا چاہیے مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ It has a lot to do with image building and it has a lot to do with effective diplomacy. point out یہاں نے ممبر نے جس طرح فاضل ممبر نے یہاں کیا کہ جب بال ٹھاکرے نے ممبئی میں pitch کھود دی تھی تو کسی ٹیم نے بھی انڈیا جانے سے انکار نہیں کیا کیونکہ انڈین حکومت نے اپنے آپ کو اس act سے بڑا effectively divorce کر دیا تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر وہ لوگ جو on the record or off the record terrorism and violence کو سمجھنا چاہیے کہ وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کا image politically damage کرتے ہیں بلکہ in all areas of life اس طرح کی چیزوں کا impact آتا ہے۔ Secondly جو banning of players ہے اور یہ سب کچھ ہے تو میرے خیال میں ایک کھلاڑی ایک ملک کا ambassador ہوتا ہے اور اگر جا کر آپ کا کھلاڑی انڈین کرکٹ لیگ کے اندر اچھا کھیلے گا تو نام نہ صرف اس کا ہوگا بلکہ ملک کا نام بھی روشن ہوگا اور India traditionally بہتر ٹیموں سے کھیلنے سے بچکچاتا ہے یہ تو ان کو terrorism کا بہانہ مل گیا ورنہ ان کو یاد ہوگا کہ میاں داد نے ان کے ساتھ کیا تھا ان کو یاد ہے کہ جو ہماری great cricket victories ہیں وہ بھی ان کے لیے بچکچاہٹ کا ایک پہلو ہے تو یہ جو ہمارے dynamics وہ یہ بھی ہے کہ جب ہماری ٹیم بہت اچھی ہوتی ہے تو traditionally India looks for excuses to avoid us. So, I think we should not fall for this trap we should not hesitate to meet India whether that be inside India or in Pakistan. Thank you.

Madam Deputy Speaker: Honorable Zahid Ullah Wazir.

Mr. Zahid Ullah Wazir: Thanks Madam Speaker. For me the cancellation of official tour is an effect rather than a cause and it is unfortunate to say that some of our policies are not up to the mark and we need to stand up to policy makers and compel them not to make policies which are responsible for tarnishing our image abroad, which are responsible to down Pakistan as an international migraine by foreigners and which are hurting our economy which are asodatory mentored to the social fabric of our society. So, we need to stand up to those policy makers and they have been made us to believe since 1947 that the policy which they make are up to mark but what is important to note is that it is because of such policies that foreign experts are not coming, official tours are not coming and we are going one step forward and two steps back that is why we are nowhere in the comity of nations and we need to rectify the course of action and also what we need to do is that we have to keep our own house in order so that our weaknesses are not exploited by our enemies. Thanks Madam Speaker.

Madam Deputy Speaker: Honorable Usman Ali.

جناب عثمان علی: شکریہ جناب سپیکر! یہ جو انڈین ٹیم کا پاکستان کا tour تھا اس کی cancellation کو تو میں اپنے الفاظ میں condemn کروں گا کیونکہ اس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو کافی مالی نقصان بھی ہوا ہے اور اس کے علاوہ کچھ دوسرے effects بھی ہیں اور جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین انڈیا چلے گئے تھے تو ایک اپوزیشن ممبر نے اس کو dignity کا پہلو دیکھ کر اس کو condemn کیا تو میں اس سے بالکل agree نہیں کرتا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کرکٹ diplomacy پاکستان اور انڈیا کے حالات میں کافی کام کرتی رہی ہے اور اس مرتبہ بھی ہمیں امید تھی کہ اس tensed situation کو cricket diplomacy ہی ease کر سکتی ہے یہ ایک اچھا پہلو تھا اور اگر وہ ادھر جاتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں تو اس میں کوئی dignity کا question نہیں ہے۔

دوسرا یہ ہے کہ آج کل پاکستانی عوام کچھ depressed situation سے گزر رہی ہے تو ان کے لیے یہ ایک اچھا ذریعہ تھا جو کہ provide نہ ہو سکا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ financial crises سے گزر رہا ہے جس طرح کہ مری صاحب نے فرمایا کہ اس tour کی cancellation سے 25 million dollar کا پاکستان کرکٹ بورڈ کو نقصان ہوا ہے۔ آج کے اخبار میں یہ آیا ہے کہ پاکستانی کرکٹ بورڈ اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ central contract revise کر رہا کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔

تیسرا، جس پر میرے دوستوں نے بات بھی کی وہ اپنے image کو portray کرنا، اگر انڈین ٹیم یہاں پر آجاتی اور ادھر کھیل کر چلی جاتی تو بیرونی دنیا میں بھی ہمارا image بحال ہو جاتا اور یہ ایک اچھا شگون ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ games کو depoliticize ہونا چاہیے۔ ہم نے جو responsible nations ہیں اور جو developed world ہیں، انہوں نے بیجنگ اولمپکس کا مظاہرہ کیا ہے امریکہ نے اپنے کھلاڑی بیجنگ بھیجے ہیں اور کسی قسم کی hurdle نہیں ڈالی۔ باکی اور سکوائش فیڈریشنوں نے فیصلے کئے ہیں یہ کسی dignity or retaliation کے طور پر نہیں لیے بلکہ سیکورٹی reasons کے لیے ہیں کیونکہ شیوسینا نے پاکستانی کھلاڑیوں کو threaten کیا تھا۔ موشن میں تیسری بات جو انڈین کرکٹ لیگ کی ہے تو میں اس سے بالکل agree کروں گا کہ پاکستانی کھلاڑی جو کہ انڈین کرکٹ لیگ کے لیے کھیل رہے ہیں تو ان کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم میں کھیل سکیں تاکہ بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ کو ہماری reservations اچھی طرح سے پہنچ سکیں۔ شکریہ۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: محترم عبداللہ لغاری۔

جناب عبداللہ لغاری: شکریہ جناب سپیکر۔ یہاں پر کافی اس حوالے سے already discussions ہو چکی ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں لیکن میں یہاں پر دوسری side کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر ایک فاضل سپیکر نے پہلے کہا کہ چونکہ پاکستان ساٹھ سال سے کرکٹ کھیل رہا ہے اور یہ موقعہ آج ہی پیش آیا تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہی ایسا موقعہ کیوں پیش آیا۔ اول تو پاکستان ساٹھ سال سے کرکٹ نہیں کھیل رہا۔ یہ یہاں پر ذرا correction کر لی جائے دوسرا یہ کہ یہ مواقع پہلے بھی آچکے ہیں اور اس میں situation ایسی نہیں ہے کہ کوئی unique واقعہ ہو گیا ہے تاریخ میں اور ہمیں آج ہی find out کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ پاکستان پر اس طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں۔ یہ پہلے بھی ایسے tours کی cancellation ہو چکی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آج کی condition کسی طریقے سے بھی depoliticize اس لیے نہیں ہوسکتی کیونکہ آپ ایک ایسی نہج پر کھڑے ہیں جہاں دونوں ملک ایک war کی situation میں آگے ہیں اور اس پوزیشن پر ہم یہ afford نہیں کر سکتے کہ ایک طرف war کی position کی بات کی جا رہی ہے ایک طرف surgical strikes ایک طرف air violation ہو رہی ہے، دوسری طرف ہم کہیں کہ ہم نے کرکٹ کھیلنی ہے اور اس diplomacy سے دونوں ملکوں کے حالات بہتر کریں گے۔ صرف کرکٹ کو اگر ہم ایک unique entity کے طور پر دیکھیں تو پھر شاید diplomacy کام آئے لیکن ایک overall foreign policy basis پر، ایک overall communication basis پر ایسا possible نہیں ہے۔ اسے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کہاں پر غلطیاں ہوئیں۔ پاکستان کی طرف سے ایک غلطی یہ ضرور ہوئی کہ ہمارے چیئرمین پی سی بی اعجاز بٹ صاحب پتا نہیں کس کی ایما پر، کونسی diplomacy تھی کہ وہ وہاں پر جائیں باوجود اس چیز کے کہ ان کی

طرف سے تند و تیز قسم کے بیانات پہلے ہی آرہے تھے کہ پاکستان میں ہم اپنی ٹیم نہیں بھیجیں گے یہ حکومت کا فیصلہ ہے اور حکومت کا stance تھا ہم already اس بات سے واقف ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر اعجاز بٹ صاحب وہاں پر گئے اور کس طرح انہوں نے پاکستان کا case کس طرح represent کیا اور کس طرح ان کو ناکامی ہوئی اس پوری situation۔ ہمیں اس situation کو understand کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے لیے اس وقت یہ time نہیں ہے کہ ہم کرکٹ کے حوالے سے کھیلنے کی باتیں کریں۔ ہم اس وقت ایک ایسی situation میں، اس وقت ایسے mode میں آگئے ہیں کہ already بہت defensive ہیں۔ اگر ہم اس میں بھی مزید defensive approach کر کے ان کو اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اور کرکٹ کھیلیں اور باوجود دعوت کے ہم پھر اس ناکامی کا سامنا بھی کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں بار بار انکار کر رہے ہیں۔ نہ صرف انکار کر رہے ہیں بلکہ ہمارے خلاف بیانات بھی دے رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس situation میں ایسی کوئی چیز possible نہیں ہے۔

دوسرا اب میں سکوائٹس فیڈریشن اور ہاکی فیڈریشن کی طرف سے جو بھی اقدامات کئے گئے اس ان کو میں سراہتا ہوں، وہ یقیناً bold steps تھے اور اس چیز کی ضرورت تھی وہ ایسے موقع پر لیے جاتے اور ایک clear message send کیا جاتا کہ دوستی کا عمل ہے یہ دو طرفہ عمل ہے یہ کوئی یکطرفہ نہیں ہوتا اگر وہاں پر position clear نہیں ہوگی تو یہاں سے بھی پوزیشن واضح نہیں ہوگی۔ جہاں تک ICL players کا تعلق ہے تو ضرور ان پر سے ban uplift ہونے کی ضرورت ہے۔ ختم ہونے کی ضرورت ہے۔ جب وہ آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں تو قطعاً یہ موقعہ نہیں ہے کہ آپ اپنے star players کو جن کا پاکستان میں بہت نام رہ چکا ہے۔ جنہوں نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو بہت serve کیا ہے۔ ان کو آپ کسی بھی طور پر ان کے purpose کے لیے جو وہ کرکٹ کھیلانا چاہ رہے اپنے آپ کو اس position میں engage کرنا چاہ رہے ہیں ان کو آپ قومی ٹیم سے باہر نکالیں۔ تو اس پر بہت زیادہ positive steps لینے کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: جناب حامد حسین۔

جناب محمد حامد حسین: شکریہ جناب سپیکر! یہاں پر اس وقت جو بات ہو رہی ہے کرکٹ ڈپلومیسی کے حوالے سے اس پر میں add کرنا چاہوں گا کہ اگر دونوں اطراف سے فوجیں کھڑیں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کرکٹ نہیں کھیل سکتے اس کے لیے ہم یہ propose کریں گے کہ باہر full-fledged tour ہو یا full-fledged series ہو اس دفعہ جو سیکورٹی کے خدشات ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس tour سے اور بھی حالات بگڑ سکتے ہیں اس لیے میں propose کرتا ہوں کہ ایک twenty 20 کا peace match ممبئی یا لاہور میں ہونا چاہیے۔ اس طرز پر ایک short terms ہو جس میں سیکورٹی کو manage کرنا بھی آسان ہو اور ice کو بھی break-up کیا جا سکے۔ اس کے بعد اس کے جو economic aspects of cancellation پر معزز ممبران نے کافی بحث کر لی ہے۔ اس کے علاوہ جو economic activity ہے وہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے options ہیں

to break the ice is the neutral venue. We have the venue for the proposed series for Indian, Pakistan, Sri lanka and Canada. So we should also go for these kinds of options. So that can break the ice and they can normalize the situation because in the past specially in 1987 when there was a tensed situation between Pakistan and India, the President Zia-ul-Haq did very well by the cricket diplomacy, he himself went there. So, if the people are talking at this time that the Ejaz Butt the Chairman, PCB's visit is objectionable. So this does not place anywhere because the President of Pakistan, a military general, himself went there to break the ice. So, I commend and I salute to Ejaz Butt, the PCB Chairman for breaking the ice and going himself there. Regarding the ICL issue, there was a very good opinion from Ahmed Javed that our current players are playing there and this has broken our team. So, we should make some legislation before anything else happen in this development because there has been a trend in Pakistan that we do legislation after something happened in the past. So, we have to take care it from the very beginning and we should do something that can prevent this kind of situation

and revising the central contract list, there is a latest update that the amount has been reduced. So, we have to consider the PCB's economic situation and we should allow the Pakistani Cricket Team or we should encourage the Pakistani Cricket Team to play with India at any place whether it be Sri Lanka, Canada or whatever. Thank you.

Madam Deputy Speaker: Honorable Essam Rehmani.

Mr. Muhammad Essam Rehmani: Madam Speaker, as a token of courtesy I request you to please recognize Mr. Zamir Malik to speak on my place as he has been saddened for not being allowed to speak on behalf of the Blue Party. Thank you.

جناب ضمیر احمد ملک: مجھے پورا پورا چانس ملتا ہے لیکن اعصام بھائی کی مجھ سے بہت محبت ہے تو انہوں نے مجھے recommend کیا۔ بہر حال بہت بہت شکریہ! اعصام بھائی اور اپوزیشن کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جناب والا! بات کرکٹ کی ہو رہی ہے اور کرکٹ diplomacy کی۔ مجھے یہ بتائیں کہ ادھر ہم حالات جنگ میں ہیں۔ Diplomacy تو وہاں ہوتی ہے جہاں پر لینا دینا ہوتا، diplomacy تو وہاں ہوتی ہے جہاں کسی سے غرض ہو، انڈیا سے ہماری قوم کو کیا غرض ہے۔ وہ ہمارے ساتھ جس tone میں بات کر رہے ہیں اور ہم جا کر ان کی منتیں کر رہے ہیں کہ یار کرکٹ کھیلو، کرکٹ کھیلو، بھاڑ میں جاؤ ہم نے کرکٹ نہیں کھیلنی۔ جناب سپیکر! قوموں کی غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ہم کرکٹ کھیلنے کی بھیک مانگ رہے ہیں اور وہ ہمیں للکار رہے ہیں۔ کبھی ہمارے اوپر سے ان کے drones گھوم کر چلے جاتے ہیں اور ہمارے چیئرمین پی سی بی جا کر وہاں کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ کھیلو اور اگلوں نے کہا کہ ہم نہیں کھیل رہے، ہمارے قوم کی کیا عزت رہ گئی۔ کہ انہوں نے ہمیں نہ کر دی۔ ہمیں یہاں سے بولنا چاہیے تھا کہ نہیں کھیل سکتے تو جاؤ بھاڑ میں جاؤ۔ ہم بھی تمہارے ساتھ نہیں کھیلیں گے۔ جناب سپیکر! بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ کرکٹرز پیسہ کمانے کے چکروں میں وہاں جاتے ہیں، وہاں ڈانس پارٹیوں میں جاتے ہیں ان کو عوام کا کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان کی کوئی عزت ہے۔ ائی سی ایل میں جا رہے ہیں اور پیسہ لے کر اپنے اکاونٹ میں ڈال لیتے ہیں اس سے غریب کو کیا ملتا ہے۔ جناب غریب کا تو ایک ایک پیسہ پاکستان کے ڈیفنس پر خرچ ہو رہا ہے۔ اگر ہم ڈیفنس صحیح نہ کر سکیں تو میری گزارش ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کی طرف سے ایک قرارداد آنی چاہیے کہ ہم کبھی بھی کرکٹ کی بھیک مانگنے نہیں جائیں گے۔ Diplomacy کرنی ہے تو diplomats کریں۔ کرکٹر کا کیا کام ہے کہ وہ جا کر diplomacy کرے۔ بہت بہت شکریہ۔

محترمہ ڈپٹی سپیکر: معزز احمد نور صاحب۔

جناب احمد نور: شکریہ محترمہ سپیکر! میں تو اس پر بولنا نہیں چاہتا تھا لیکن جو debates ہوئی ہے اس پر میں کچھ چیزیں add کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو میں محسن رضا کی kind information کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ 1980 میں اس پارلیمنٹ کے لوگ اس دنیا میں نہیں تھے۔ جب آج ہمیں موقع ملا ہے تو ہم نے پیش کیا ہے۔ باقی بھیک کی بات کی ان کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا کیونکہ اس نے خود اپوزیشن والوں سے بھیک میں وقت مانگ کر بات کرنے کی کوشش کی ہے۔

Madam Deputy Speaker: Ahmed Noor sahib you should not make such comments about your honourable fellow members. We have to expunge this.

جناب احمد نور: میڈم سپیکر! sorry میڈم بات صرف مذمت کی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم entertainment چاہتے ہیں لیکن خودی پر compromise ہم نہیں کر سکتے۔ انڈیا نے یہ tour cancel کیا۔ آج اگر یہ حکومت فیصلہ کرنا چاہے کہ جب تک انڈیا حکومت اس پر معافی نہ مانگے اور ہمارے کرکٹ بورڈ کا جتنا مالی نقصان ہوا ہے اس کو compensate نہ کرے اس

وقت تک ہم انڈیا کے ساتھ کوئی میچ نہیں کھیلیں گے۔ یہ اس ہاؤس سے اگر approve کیا جائے اس میں شامل کیا جائے تو OK. Thank you madam

جناب ڈپٹی سپیکر: جناب عبداللہ زیدی۔

جناب عبداللہ زیدی: شکریہ میڈم سپیکر! میں نے چھوٹی سی بات کرنی تھی شکریہ۔ یہ پارلیمان پاکستان کی foreign policy کو بھی represent کرتی ہے۔ میرے دوست اور فاضل ممبر نے کہا تھا، انہوں نے شاید دانستہ اور غیر دانستہ طور پر استعمال کیا کہ تامل ٹائیگرز بھی terrorist ہیں یا میں شاید غلط سمجھا۔ Tamil Tigers terrorist نہیں ہیں یہ ایسا ہی ہے کہ ہم نیلسن منڈیلا کو terrorist کہیں کیونکہ وہ بھی گوریلا گروپ کا لیڈر بنا تھا جب اس نے دیکھ لیا کہ non-violent measures کام نہیں کرتے یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم نے بنگالیوں کو terrorist کہا تھا۔ شکریہ۔

جناب وقاص اسلم رانا: یہاں پر یہ جو تامل ٹائیگرز کی بات ہو رہی ہے وہ سٹیٹ جو اس وقت وہاں پر کام کر رہی ہے ہماری پالیسی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم state کو offend نہ کریں۔ تامل ٹائیگرز کو ہم یہاں پر سپورٹ نہیں کر سکتے۔

محترمہ ڈپٹی سپیکر: تشریف رکھیں۔ Honorable Leader of the Opposition we still have time if you want to speak you can speak, you can speak about it.

جناب فرخ جدون: میڈم اگر آپ اجازت دیں تو۔
محترمہ ڈپٹی سپیکر: جی جی۔

جناب فرخ جدون: میڈم اگر پہلی resolution پر بات کرنے کا موقع دے دیا جائے تو میرے خیال میں بہت بہتر ہے۔

Madam Deputy Speaker: Jadoon Sahib, whatever we do is with the consensus of the House.

Syed Waqas Ali Kauser: Point of order.

Madam Deputy Speaker: Yes.

جناب احمد علی باہر (وزیر اعظم): اگر اس موشن کے اوپر debate ہو چکی ہے اور ہمارے پاس بولنے کے لیے سپیکرز نہیں ہیں۔ اگر آپ پہلی resolution کے اوپر ایوان کو suggestions دینا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں معزز ممبر کو chance ملنا چاہیے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے۔

Madam Deputy Chairman: With the consensus of the House, I give you a time.

جناب فرخ جدون: بہت شکریہ میڈم سپیکر! بہت سپیکر وزیراعظم صاحب! میری بہنوں نے بہت اچھی باتیں کیں۔ میرے بھائیوں نے بھی بہت اچھی باتیں کیں۔ میں انہیں ان سے صرف بنیادی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے میں جو تربیت کرتا ہے وہ کون شخص ہوتا ہے۔ وہ ماں ہوتی ہے۔ میری ماں نے مجھے یہ بات سکھائی ہے انہوں نے میری تربیت ایسی کی ہے کہ اگر میری family میں اگر سوارا یا ونی کی رسم چلائی جائے گی، میری کسی بہن کے لیے، میری کسی کزن کے لیے تو میں اس کے لیے اپنا سر کٹواؤں گا۔ آپ جو عورتیں ہیں، آپ کا جو اصل کام ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ آپ ایسے بچوں کی تربیت کریں کہ کل کو جب وہ بڑا ہو، جب ان مسائل پر اپنے فیصلے کرے، بہت عجیب سا لفظ ہے میں اسے بولنا نہیں چاہ رہا سمجھ گئے ہوں گے اس کی طرف وہ نہ دھکیلے۔ بہت سے ایسے شعبے ہیں جن کی ہمارے معاشرے میں اجازت نہیں ہے ان شعبوں کی طرف انہیں نہ دھکیلے وہ کون دھکیلتا ہے وہ مرد دھکیلتا ہے۔ مرد کی تربیت نہیں ہوتی۔ اس کی تربیت کون نہیں کر پاتا، اس کی ماں نہیں

کر پاتی۔ آپ جب مائیں بنیں گی آپ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں کہ وہ معاشرے کو اچھے فرد دیں۔ بہت شکریہ۔

Madam Deputy Speaker: I would ask the honorable Youth Prime Minister to make a brief statement about the Motion we are talking about.

Miss Hira Batool Rizvi: Thank you madam Speaker. I would speak about this issue, since this is related to my Ministry and concerned Chairman is not here. So, I will just talk about a few things over here.

یہ جو ہمارے ساتھ حادثہ ہوا ہے اس سے پاکستان کو پچیس ملین ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ Needless to say آج پچیس ملین کا نقصان ہوا ہے آگے پتا نہیں کتنے ملین کا نقصان ہوتا ہے کیونکہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے حالات کو دیکھیں۔ ہمارے اپنے حکمران جیسے اسفند یار ولی،

I would want to quote here that they are running away from the country what image are they projecting to the whole world over here. جو حالات ہیں وہ تو یہی لوگ پوری دنیا کو دیکھاتے ہیں۔ اگر یہی لوگ ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، what sort of security can we guarantee for other people who come to play in the country. About Image building Mr. Waqar Nayyar where do we stand and where do our leaders image building کے اندر آجاتا ہے کہ stand when it comes to image building because the image of Pakistan, as we all know, it is pathetic around the world. improvement کے اوپر وقار نیر صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے۔ اس کے بعد Javed who talked about a very important thing that was the penalties issue. That is really good کیونکہ پاکستان نے obviously جو losses suffer کئے ہیں اس issue کی وجہ سے وہ penalties بہرے۔ یہ جو immature حرکت انٹین کرکٹ بورڈ نے کی ہے اس کی وجہ سے just give the penalties. We demand it and it is our right and بعد جناب حامد حسین کی ایک بات سے میں بہت ہی ناخوش ہوں he talked about the neutral venue. Why are we so desperate to play with the country? Why do we want a neutral venue? we provide you every other opportunity to play and this is really immature اگر ہم کسی دوسرے ملک میں جا کر کھیلیں۔ Why we can not guarantee you all the security in our country? ہم نہیں کرسکتے تو ہمارا پاکستان کرکٹ بورڈ ختم کرے۔ ہمارے ملک میں کرکٹ ختم کریں، why do you want to play in other country what is the use of our own cricket board then? I would like to thank Nishat Kazmi. He has given a really clear picture about all the situation and economic betterment طابر صاحب نے بات کی that was really good. ایک میں اور چیز بتانا چاہوں گی کہ خالی انڈیا ہمارے لیے نہیں ہے there are other ten test playing cricket nations کے ساتھ انڈیا کو ہمارے ساتھ نہیں کھیلنا تو we always have the opportunity to play with other nine excluding India. انڈیا کی کرکٹ ٹیم کو گھر پر بٹھائیں Mr. Umair and we are far more better than them. Mr. Umair Zafar Malik said and I quote that politics and cricket should not be merged. I salute him آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ اگر آپ نے ان دونوں یعنی کرکٹ اور سیاست کو merge کرنا ہے تو وہ ہمیں بتا دیجیے تاکہ ہم اس سوچ کے ساتھ کرکٹ کھیلیں۔ اگر ہم اس سوچ کے ساتھ کرکٹ کھیلنا چاہیں کہ اس میں سیاست ہو رہی کرکٹ نہیں ہو رہی ہے تو وہ بھی بتا دیں but cricket is cricket. So, we should play it as a game. politics کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہ جو جناب اعجاز بٹ نے کیا ہے diplomacy ties کے لیے، it is not his work. Other people are sitting there in the Parliament، he is just a cricket person. عجیب کام کیا ہے وہاں پر جا کے۔ I think it is a total wrong representation of Pakistan from his side. plead نہیں کرنا چاہیے تھا کرکٹ کے لیے۔ I don't know why he went there by the way. Indian Cricket League پر جو ہمارے کھلاڑیوں پر banning کی بات ہوئی ہے۔ This is really not acceptable because ہمارے cricketers کو بالکل

open right ہونا چاہیے کیونکہ ان کا کام تو کرکٹ کھیلنا ہے۔ وہ کسی بھی ملک میں جا کر کھیلیں۔ ہمارے ملک میں تو foreign exchange آ رہا ہے۔ So, it is all for the betterment of the country. So, they are representing our country. So, it is all well and good. That is all Indian Cricket league میں۔ ban بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ and the Leader of the Opposition wants to add something he can.

جناب اعصام رحمانی: محترمہ سپیکر! میں ضمیر کی بات سے بہت زیادہ اتفاق کرتا ہوں وہ ہر بات میں غریب عوام کی بات کرتا ہے۔ ابھی اگر ہمارے پاس وقت تھا تو بار بار ایک چیز کی repetition ہو رہی تھی اس کی بجائے اگر ہم لوگ constructive debate کرتے جو وزیراعظم صاحب نے آج صبح calling attention notice دی تھی اور میں نے سیکرٹریٹ کو بھجوائی بھی تھی تو شاید زیادہ اچھا ہو جاتا۔ میرے خیال میں repetition کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں بھی بولنے کے لیے صرف مواقع نہیں چاہیے let us just wrap up everything and come to constructive debate تاکہ ہم لوگ اس غریب عوام کے لیے کچھ کر سکیں۔ شکر یہ۔

Mr. Zahid Ullah Wazir: Point of information.

Madam Deputy Speaker: You can provide the information to the relevant standing committee. Thank you. Resume your seat.

OK. You just have one minute to speak and Mr. Waqar Nayyar also has one minute to speak then.

Mr. Zahid Ullah Wazir: Thank you madam. The point is that statement made against Asfandyar Wali was based on personal prejudice because it is the responsibility of the state to provide security to each and every citizen and if state is unable to provide security then every one is free to go wherever he wants to go for security.

Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Waqar Nayyar sahib.

جناب وقار نیر: شکر یہ جناب سپیکر! ایک تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کس کمیٹی کو refer ہوا ہے اور یہ announcement اگر ہوئی تھی تو میں نے شاید miss کر دیا ہے۔ دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ since we do have time اگر we can have another calling attention notice or another motion that would be nice if not then people should be allowed to speak if they want to raise points of information or queries. میں صرف ایک dimention add کرنا چاہ رہا تھا۔ اس میں یہ تھا کہ جب ہمارے کریکٹرز پکڑے جاتے ہیں with drugs or while they are called in parties تو ضمیر صاحب اعتراض تو ضرور کرتے ہیں مگر ہمارے صدر صاحب جب امریکہ کی presidential campaign ہو رہی تھی تو اس زمانے میں ان کا بھی objectionable behaviour رہا تھا اس کے بارے میں بھی کچھ highlight کریں۔

جناب ضمیر ملک: پوائنٹ آف آرڈر۔

Madam Deputy Speaker: Please, Zamir sahib resume your seat.

جناب ضمیر ملک: میڈم صرف ایک منٹ۔ میڈم یہ ان کا personal right تھا وہ اگر کچھ

بھی کریں۔

Miss Hira Batool Rizvi: I would just want to tell all of you that Mr. Asfandyar Wali is presently in the Government. So he is the one providing security to all of us. This has been referred to the committee of Culture, Sports and Youth Affairs. Thank you.

Madam Deputy Speaker: Please resume your seats. Instead of personal criticism, I would appreciate if all of you go for a more constructive debate. Now, I read out the prorogation order. In exercise of the powers

conferred upon me I hereby prorogue the second session of Youth Parliament Pakistan after the conclusion of its sitting held on January 4, 2009.

Sd/-
(Kashmala Khan Durrani)
Deputy Speaker,
Youth Parliament of Pakistan

[The House was then prorogued sine die.]
